

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

تذکرہ معصومین علیہم السلام

900 سوالات اور انکے جوابات

مؤلف:-

سید شفقت حسین نقوی

ایم۔ اے ادبیات اردو

بی ایڈ

میاں چنوں

ناشر

ادارہ تعلیم و تربیت لاہور پاکستان

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	انتساب	1
	دیباچہ	2
1	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	3
25	حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا	4
31	امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام	5
54	حضرت امام حسن علیہ السلام	6
59	حضرت امام حسین علیہ السلام	7
67	حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام	8
72	حضرت امام محمد باقر علیہ السلام	9
79	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام	10
85	حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام	11
89	حضرت امام علی رضا علیہ السلام	12
93	حضرت امام محمد تقی علیہ السلام	13
96	حضرت امام علی نقی علیہ السلام	14
100	حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام	15
103	حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام	16
	ماخذ	17

نام کتاب :- تذکرہ معصومین علیہم السلام

900 سوالات اور ان کے جوابات

مرتبہ و مؤلفہ :- سید شفقت نقوی۔ ایم اے ادبیات اردو

بی۔ ایڈ

تاریخ طباعت :- اکتوبر 2002ء

تعداد :- ایک ہزار

ایڈیشن :- اول

ناشر :- ادارہ تعلیم و تربیت لاہور پاکستان

قیمت :-

ملنے کا پتہ :- (1) مکتبہ الرضا-8 بیمنٹ میاں مارکیٹ غزلی سٹریٹ اردو بازار

لاہور فون: 7245166

(2) 7/9 میاں جنوں ضلع خانیوال فون: 0448-662660

تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لئے جو عالمین کا پروردگار ہے اور درود و سلام ہے ان نفوس قدسیہ پر جن کے صدقے میں زمین کو سبز قبا اور آسمان کو نیلگوں پیرا بن دیا گیا انہی ہستیوں کے وجود و بقود کے متعلق سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰؐ فرماتے ہیں۔

گویا حضورؐ نے عترت و اہل بیتؑ کو رشد و ہدایت اور ستر ہونے کے حوالے سے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ان چہارہ معصومینؑ کی شناخت پہچان اور عرفان و ایقان کی خاطر ایک کتاب بعنوان تذکرہ معصومینؑ تحریر کی گئی ہے۔ تاریخ و سیرت کی دنیا میں ہزار ہا کتب ان کے متعلق موجود ہیں۔ لیکن ایسی سوال جوابا کتاب نظر سے نہیں گزری۔ اس کتاب میں نو صد سوالات معہ جوابات سپرد قلم کئے گئے ہیں اس کتاب کے مطالعہ سے چند ساعتوں میں قاری علم کے بحر بے کنار میں غواصی کر لیتا ہے۔ اس مادی اور مصروف زندگی کو پیش نظر رکھ کر چہارہ معصومینؑ کی سیرت طیبہ کو ان سوالات و جوابات میں سونے کی کوشش کی گئی ہے کلیات و جامعات کے طلباء طالبات کیلئے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے وہ بیسیوں کتابوں کے مطالعے سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔

فکر معاش اور گرانی نے انسان کو اپنے بچوں میں جکڑ رکھا ہے انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتب خانوں کی خاک چھانتا پھرے ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے منتخب مواد کو یکجا کر دیا گیا ہے تاکہ حقیقی اسلام سے آشنائی ہو۔ اسلام کے عظیم محسن مرتبی حضرات سے تعارف ہوا مال کا ایک مسلمان ان کی حیات طیبہ کو اپنا کر کامیابی و کامرانی اور رستگاری کی منزل تک پہنچ جائے۔

چہارہ معصومینؑ کی پاک زندگیاں دنیا و عقبی کی فلاح و بہبود صلاح کے لئے کامل

انتساب

درج ذیل مربیان کے نام کرتا ہوں۔

- 1) والد محترم سید نجم الحسن نقوی مرحوم متوفی۔ 1950ء
- 2) والدہ محترمہ سیدہ کلثوم فاطمہ نقوی مرحومہ متوفیہ۔ 1948
- 3) برادر بزرگ فرحت حسین نقوی مرحوم متوفی۔ 1985

تعارف

والدین اور برادر بزرگ ہمیشہ چہارہ معصومینؑ کے دیروالایت پر سر تسلیم خم گئے رہے۔ عزائے حسینؑ کی ترویج و ترقی میں ہمہ تن مصروف عمل رہے۔

التماس دعائے مغفرت

قارئین سے التماس ہے کہ ان کی مغفرت کیلئے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ شکریہ

مؤلف

حماد اہل بیت

شفقت حسین نقوی

(۱) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

س 1 حضور کے جد اعلیٰ کون تھے؟

ج حضرت ابراہیم۔

س 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کریں؟

ج۔ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغواہ بن فالح بن عابد بن شالخ بن

قینان بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام بن امک یا لافح بن متوشلح بن اخنوخ

یعنی ادریس علیہ السلام بن یارد بن ہلال بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم

علیہ السلام۔

س 3 حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟

ج۔ 230 برس۔

س 4 حضرت شیث نے کتنی عمر پائی؟

ج۔ 912 برس۔

س 5 حضرت ادریسؑ دنیا میں کتنے برس رہے

ج 365 برس۔

(س 6) اب حضرت ادریسؑ کہاں ہیں؟

ج آسمانوں میں قیام پذیر ہیں

س 7 حضرت نوحؑ نے کتنی عمر پائی؟

ج 2500 برس۔

اور بہترین نمونہ ہیں اگر انسان ان کی بارگاہ قدس میں سر نیاز خم کر دے تو مقصد حیات کو پالیتا ہے۔ جناب ختم الرسلؐ سے امام مہدیؑ آخر الزمان تک صاحبان ہدایت کا سلسلہ ہے۔ یہی خازن اسرار الہی ہیں۔ یہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہی نجات کی کشتی ہیں۔ یہی تقسیم وقاسم جنت ہیں۔ یہی خدا کا نادر الوجود شاہکار ہیں یہی ہادیان برحق ہیں۔ یہی اعلیٰ علیین ہیں۔ انہی کے صدقے میں عرش، کرسی، لوح، قلم، عقل، نور، مقرب فرشتے اور رعنائی و زیبائی کی خلقت ہوئی یہی ہستیاں اللہ جل مجدہ کی معرفی ہیں۔

امید ہے قارئین محترم اس کتاب کو اپنی علمی دنیا میں پذیرائی بخش کر حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ تعلیمی اداروں، کتب خانوں، گھروں اور تعلیم و تعلم کے مراکز میں اس کتاب کو رواج دیں گے وہی آزمائش کے مقابلوں میں اس کتاب کو بنیادی حیثیت دی جائے گی۔

آخر میں تمام معاونین کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ اور خالق علم و دانش پیکران رضائے رب چہارہ معصومینؑ کیلئے سراپا سپاس ہوں جن کی نظر کرم سے بندہ اس لائق ہوا کہ ان کے فضائل و مراتب کے سمندر سے چند گوہر ابدار قارئین محترم کے حضور پیش کر سکا۔

مولف:- حماد اہل بیتؑ

شفقت حسین نقوی

ایم اے ادبیات اردو، بی ایڈ

میاں چنوں

8 س حضرت نوحؑ نے کتنے برس تبلیغ کی؟

ج 950 برس۔

9 س حضرت نوحؑ نے جب اپنی باغی قوم کیلئے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟

ج اللہ تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔

10 س حضرت نوحؑ نے کشتی کتنے عرصے میں بنائی؟

ج 200 برس میں

11 س کشتی کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی کیا تھی

ج لمبائی ایک ہزار (1000) دو سو ہاتھ چوڑائی آٹھ سو ہاتھ اونچائی اسی ہاتھ (80)

12 س کشتی کتنے برس زیر آسمان سفر میں رہی؟

ج 6 ماہ تک۔

13 س کس پہاڑی پر کشتی اتری؟

ج کوہ جودی پر۔

14 س کوہ جودی کس ملک میں واقع ہے۔

ج کوہ قاف (روس) میں واقع ہے۔

15 س سید محمود گیلانی نے کشتی کے متعلق کیا تحقیق پیش کی ہے؟

ج انہوں نے اپنی کتاب ”ایلیا“ میں لکھا ہے کہ 1951 میں روسی ماہرین آثار

قدیمہ کو ایک تختی ملی ہے جس پر عبرانی زبان میں لکھا ہے۔

”اے میرے خدا اپنے مقدس نفوس کے طفیل اپنے رحم و کرم سے میرا ہاتھ پکڑ۔

محمدؐ علیؑ، فاطمہؑ، شہر، شبیرؑ عظیم ترین اور واجب الاحترام ہیں تمام دنیا ان کے لیے

قائم کی گئی ہے ان ناموں کی بدولت میری مدد کر۔ تو ہی صراطِ مستقیم کی طرف رہبری

کرنے والا ہے۔

16 س لفظ اسلام کا آغاز کس نبی کے دور سے ہوا؟

ج حضرت ابراہیمؑ کے دور سے۔

17 س حضرت ابراہیمؑ کہاں اور کب پیدا ہوئے؟

ج عراق کے نواح میں کوٹاریہ یا کیش نامی گاؤں کے ایک غار میں طوفانِ نوحؑ سے

1080 سال بعد پیدا ہوئے۔

18 س آپؑ غار میں کتنے برس رہے؟

ج 13 برس تک آپؑ کی والدہ نونا بنت کرینا کوش دیکھ بھال کرتی رہیں۔

19 س حضرت ابراہیمؑ کے والد کا کیا نام تھا؟

ج تارخ

20 س حضرت ابراہیمؑ کی کتنی عمر تھی جب حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے؟

ج 86 برس

21 س حضرت اسماعیلؑ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟

ج حضرت ہاجرہؑ

22 س خانہ کعبہ کی تعمیر کن دو نبیوں نے کی؟

ج حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے۔

23 س حضرت ابراہیمؑ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟

ج 175 برس کی عمر میں

24 س حضرت اسماعیلؑ کی شادی کس خاندان میں ہوئی؟

ج بنی جرہم میں۔

س 25 حضرت اسماعیلؑ کی زوجہ کا کیا نام تھا؟

ج رملہ

س 26 حضرت اسماعیلؑ کی مادری زبان کیا تھی؟

ج عربی

س 27 حضرت اسماعیلؑ کے کتنے بیٹے تھے اور حجاز کی سرزمین میں کونسا بیٹا آباد ہوا؟

ج بارہ بیٹے تھے۔ قیدار حجاز میں آباد ہوئے۔

س 28 حضرت ابراہیمؑ نے کتنی عمر پائی؟

ج 133 برس

س 29 عدنان تک حضورؐ کا نسب نامہ بیان کریں۔

ج محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن

لوی بن غالب بن فہر (قریش) بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ

بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادد بن السبع بن اشمع

بن سلامان بن حمل بن بنت بن قیدار بن اسماعیلؑ بن ابراہیمؑ۔

س 30 حضورؐ کے نسب نامے میں چند افراد کے نام بتائیں اور مختصراً ان پر روشنی ڈالیں؟

ج قصی بن کلاب، عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف، عبد المطلب، عبد اللہ

س 31 قصی بن کلاب کے کارنامے بیان کریں؟

ج آپؐ نے مکہ کو باقاعدگی سے آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ دفتر امور عالمہ

تعمیر کیا۔ آپؐ مکہ کے پہلے حاکم قرار پائے، آپؐ نے مکہ میں پہلا کنواں عجل

نامی بنوایا۔ 480ء میں آپؐ کا انتقال ہوا۔ اور مقام حجون میں دفن ہوئے۔

س 32 عبد مناف کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں؟

ج آپؐ موحّد تھے۔ عظمت، بزرگی اور فیاضی میں مشہور تھے۔ غریب پرور

تھے۔ آپؐ کی شادی عاتکہ سے ہوئی۔ ملک شام میں آپؐ کا انتقال ہوا۔

س 33 حضرت ہاشم کے متعلق کچھ بتائیں؟

ج سقایت، رفادت اور دفتر امور عامہ کے ناظم تھے۔ غریب پرور تھے۔ اپنی قوم کو

تجارت کی راہ پر لگایا۔ آپؐ کا انتقال 510ء کو ہوا۔

س 34 حضورؐ کے دادا عبد المطلب کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں۔

ج آپؐ 497ء میں پیدا ہوئے آپؐ کا اصل نام شیبہ الحمد تھا۔ آپؐ کی والدہ کا نام

سلمیٰ تھا۔ کوہ حرا میں عبادت کرتے تھے۔ غریب پرور تھے۔ چاہ زمزم کو دوبارہ

تلاش کیا۔ آپؐ 82 برس کی عمر میں فوت ہوئے مقام حجون میں دفن ہوئے۔

س 35 عبد المطلب نے ابراہہ کے جواب میں کیا کہا؟

ج میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ مانگتا ہوں۔ جو کعبہ کا مالک ہے اپنے

گھر کی خود حفاظت کرے گا۔

س 36 عبد المطلب نے کوئی پانچ چیزوں کا اجرا کیا؟

ج (۱) باپ کی بیویوں کو اولاد پر حرام قرار دیا (۲) خزانے کا پانچواں حصہ غرباء پر

تقسیم کیا۔ (۳) چاہ زمزم کو کھودا اور اسے سقا بنیہ الحاج سے تعمیر کیا (۴) قتل کی

دیت 100 اونٹ قرار دی۔ (۵) آپؐ نے طواف کے سات چکر مقرر کئے

اسلام نے پانچوں چیزوں کو قائم رکھا۔

س 37 حضرت عبد اللہ کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں؟

ج حضورؐ کے والد تھے۔ حسین ترین تھے۔ 18 برس کی عمر میں حضرت آمنہ سے

شادی ہوئی۔ 25 یا 28 برس کی عمر میں حضورؐ کی ولادت سے پہلے انتقال ہوا۔

ابو کے مقام میں دفن ہوئے۔

38 س قریش کس کو کہا جاتا ہے؟

ج حضور کے بزرگ نصر بن کنانہ کو۔

39 س قریش کے کیا معنی ہیں؟

ج سوداگر

40 س حضور کی ولادت کب ہوئی؟

ج 570ء بمطابق 17 ربیع الاول ۱۱ھ عام الفیل دوشنبہ کے روز۔

41 س حضور کی پرورش اور تربیت کن حضرات نے کی؟

ج 6 برس تک والدہ نے پالا۔ 2 برس دادا حضرت عبدالمطلب کی تربیت میں رہے

دادا کی وصیت کے مطابق تاحیات حضرت ابوطالب نے تربیت کی۔ علی کی

والدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی آپ کی تربیت کی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا

42 س حضرت ابوطالب کی رفاقت حضور سے کتنے برس رہی؟

ج تقریباً 42 برس تک۔

43 س حضور ﷺ کی پہلی شادی کتنی عمر میں کس خاتون سے ہوئی؟

ج 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلہ سے ہوئی۔

44 س حضور کا نکاح کس نے پڑھا؟

ج حضرت ابوطالب نے۔

45 س حضرت ابوطالب کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟

ج 86 برس کی عمر میں۔ ہجرت سے 3 برس قبل۔

46 س ہجرت سے 3 برس پہلے حضور کی کس زوجہ کا انتقال ہوا؟

ج حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔

47 س حضور نے اس سال کا کیا نام رکھا۔

ج عام الحزن یعنی غم کا سال

48 س آپ کس جگہ پیدا ہوئے؟

ج آپ شعب ہاشم یعنی شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے وہاں اب مسجد مولد النبی بنی ہوئی ہے۔

49 س آپ کا نام کس نے رکھا؟

ج حضرت عبدالمطلب نے محمد نام رکھا

50 س توریت میں حضور کا نام کیا ہے؟

ج فارقلیط۔

51 س حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو کس نام کی خوشخبری دی تھی؟

ج احمد کی۔

52 س آپ کا حقیقہ کب ہوا اور کیا ذبح کیا گیا؟

ج ساتویں روز اونٹ ذبح ہوا اور قبیلے کی دعوت ہوئی۔

53 س آپ کے کتنے القابات ہیں؟

ج ننانوے (99) القابات ہیں۔ خاتم النبیین، حاشر، ماجی، عاقب، صادق، مصدق

امین، مبشر، منذر، ولی، داعی، مدثر، منزل، بلین، طہ، اور دیگر۔

54 س معاہدہ حلف الفضول کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج ظلم کے خلاف بنی زہرہ، بنی ہاشم، بنی تیم کے مابین ہوا۔

55 س کپ کا مہر کتنا مقرر ہوا اور کس نے ادا کیا؟

ج بارہ اونس سونا، اور پچیس اونٹ مہر مقرر ہوا۔ حضرت ابوطالبؑ نے ادا کیا۔

س 56 حضورؐ کی بیٹی کا نام بتائیں؟

ج حضرت فاطمہؑ

س 57 حضورؐ کے بیٹوں کے نام بتائیں؟

ج حضرت قاسمؑ، حضرت عبد اللہؑ، حضرت ابراہیمؑ

س 58 حضرت ابراہیمؑ کی والدہ کا نام بتائیں؟

ج حضرت ماریہ قبطیہؑ

س 59 حضرت خدیجہؑ نے اپنی کس بہن کی کن بیٹیوں کی پرورش کی؟

ج ہالہ بنت خویلا کی تین بیٹیوں کی زینب، رقیہ، ام کلثوم کی پرورش کی۔

س 60 حضورؐ کی سب سے پہلے اور سب سے آخر کون زوجات فوت ہوئیں؟

ج حضرت خدیجہؑ سب پہلے، اور حضرت ام سلمہؑ سب کے بعد۔

س 61 حضورؐ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی۔ اور کیسے نازل ہوئی؟

ج 40 برس کی عمر میں جبریلؑ آئے اور کہا آپؐ نے کہا پڑھوں جبریلؑ

نے کہا اقراء باسم ربک۔ پس آپؐ نے پڑھنا شروع کر دیا۔

س 62 حضورؐ نے سب سے پہلے کونسی نماز پڑھی؟

ج نماز ظہر۔

س 63 سب سے پہلے حضورؐ کی اقتدا میں کن ہستیوں نے نماز پڑھی؟

ج حضرت علیؑ اور حضرت خدیجہؑ نے نماز عصر پڑھی پھر حضرت زیدؑ شامل ہونے

لگے۔

س 64 حضورؐ کی کس زوجہ نے اپنے مشرک باپ کو بستر رسولؐ پر نہ بیٹھنے دیا۔

ج حضرت ام حبیبہؑ نے ابوسفیان کو۔

س 65 دعوت ذی العشرہ میں حضورؐ کی مدد کا وعدہ کس نے کیا؟

ج حضرت علیؑ نے۔

س 66 حضورؐ نے علیؑ کے وعدہ کرنے پر کیا خوشخبری سنائی؟

ج یقیناً آپؐ میرے بھائی۔ وحی۔ جانشین ہیں۔ حاضرین سے کہا تم پر لازم ہے کہ

ان کی اطاعت کرو۔

س 67 سابقین اسلام پر اسلام قبول کرنے پر کیا گزری؟

ج یاسرؑ اور انکی زوجہ سمیہؑ کو شہید کیا گیا خباب بن ارشا، بلال حبشی کو انگاروں پر

لٹایا گیا صہیب رومی پر تشدد ہوا۔ ابو لہبہؑ یعنی ابلح پر ظلم ہوا،

س 68 حضورؐ کتنے برس شعب ابی طالب میں رہے؟

ج 3 برس۔

س 69 ہجرت حبشہ کب ہوئی اور کتنے لوگوں نے ہجرت کی۔

ج 5ھ کو 11 مرد اور 5 عورتوں نے ہجرت کی۔

س 70 شق القمر کا واقعہ کب ہوا؟

ج بعثت کے نویں برس یا ہجرت سے پانچ برس پہلے ہوا۔

س 71 معراج الہی کب ہوئی؟

ج 27 رجب 12 بعثت کو۔

س 72 کس جگہ سے کب حضورؐ معراج کیلئے روانہ ہوئے اور جبریلؑ کہاں آگے جانے

سے رک گئے؟

ج ام ہانی بنت ابی طالبؑ کے گھر سے 12 بعثت کو سفر ہوا۔ سدرۃ المنتہی پر جبریلؑ

رک گئے۔

73 س مدینہ کا اصل نام کیا تھا؟

ج یثرب تھا۔ بنی عمالہ کے ایک رئیس یثرب نامی نے اسے آباد کیا۔ حضورؐ کی ہجرت کے بعد یہ مدینہ النبیؐ کہلایا۔

74 س حضورؐ نے ہجرت کب کی؟

ج 2 ربیع الاول 14 بعثت کو

75 س کس غار میں حضورؐ نے پناہ لی؟

ج غار ثور میں 4 ربیع الاول تک رہے۔

76 س بستر رسولؐ پر شب ہجرت کون سویا؟

ج حضرت علیؑ

77 س خدا نے علیؑ کے سونے پر کیا انعام دیا؟

ج آیہ من بشری نازل کی۔ اپنی مرضات سے علیؑ کو نوازا

78 س حضرت علیؑ کن ہستیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے؟

ج حضورؐ کی امانتیں ادا کیں۔ فاطمہ بن اسد۔ فاطمہ بنت محمدؐ اور فاطمہ بنت زبیر کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

79 س قریش نے علیؑ کا راستہ روکنے کیلئے کتنے لوگوں کو بھیجا اور ان کا انجام ہوا؟

ج 8 آدمیوں کو بھیجا۔ ایک کو حضرت علیؑ نے قتل کر دیا۔ باقی بھاگ گئے۔

80 س مدینے میں حضورؐ کس کے مکان میں قیام پذیر ہوئے؟

ج ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔

81 س مدینے میں داخل ہونے سے پہلے کس کے گھر میں ٹھہرے؟

ج کلثوم بن ہدم کے گھر۔

82 س مدینے سے باہر حضورؐ نے کونسی مسجد تعمیر کی۔

ج مسجد قبا۔

83 س مسجد نبویؐ کی فضیلت بیان کریں؟

ج اسے خود حضورؐ نے دیگر اصحابؓ کے ہمراہ تعمیر کیا۔

84 س پہلی اذان مسجد نبویؐ میں کس نے دی؟

ج حضرت بلالؓ نے۔

85 س حضرت بلالؓ کو اذان کس نے سکھائی؟

ج حضرت علیؑ نے

86 س حضرت سلمانؓ کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں؟

ج سلمانؓ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ دس بار تک کر حضورؐ تک مدینے میں پہنچے

مہر نبوت دیکھ کر مسلمان ہوئے اس وقت آپؐ کی عمر 250 یا 350 برس

تھی۔ مدائن کے گورنر بھی رہے۔ 35ھ میں وفات پائی۔ حضورؐ نے فرمایا

سلمانؓ میرے اہل بیت میں سے ہے۔

87 س مواخات میں حضورؐ نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟

ج حضرت علیؑ کو۔

88 س حضرت فاطمہؓ کا عقد حضرت علیؑ سے کب ہوا؟

ج 15 رجب ۲ھ کو

(89 س) حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؑ کا خطبہ نکاح کس ہستی نے پڑھا؟

ج رسولؐ خدا نے۔

س 90 حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کا حق مہر کیسے ادا کیا۔

ج زرہ بیچ کر 480 درہم مہر ادا کیا۔

س 91 حضرت علیؑ کی دعوت ولیمہ کیسے ہوئی؟

ج حضورؐ نے گوشت ردئی کا انتظام کیا۔ حضرت علیؑ نے روغن اور کھجوریں مہیا کیں

سب مسلمان دعوت میں شریک ہوئے۔

س 92 حضرت فاطمہؑ کا جہیز کل کتنے درہم میں خریدا گیا۔

ج 80 درہم میں

س 93 تحویل کب ہوئی؟

ج ۱۰ شعبان ۲ھ کو

س 94 کس نماز کی ادائیگی کے دوران تحویل کعبہ ہوئی۔ یہ واقعہ کس مسجد میں پیش آیا؟

ج نماز ظہر کی تیسری رکعت میں یہ عمل ہوا۔ یہ تبدیلی مسجد قبلہ میں ہوئی اس لیے اسے

مسجد قبلتین کہتے ہیں۔

س 95 سر یہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟

ج جس جنگ میں حضورؐ نے شرکت نہیں فرمائی اسے سر یہ اور جس میں حضورؐ

شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔

س 96 غزوات اور سریوں کی تعداد بیان کریں؟

ج غزوات 19 سے 27 تک اور سریے 56 ہوئے ہیں

س 97 چند غزوات کے نام بتائیں؟

ج ابوا ذوالعشرہ، بدر، احد، قرقرۃ الکدر، سویق، بنی نضیر، ذات الرقاع، دومیہ

الجندل، بنی مصطلق، احزاب بنی الحیات، ذی قرد، خیبر، وادی القری، حنین

تبوک، بنی قینقاع۔

س 98 چند سریوں کے نام بتائیں؟

ج رابح، سیف، الحر، حرار، البوسمر، ابن انیس، موتہ، وادی الزل، بنی طے، بنی کرملہ

س 99 غزوہ بدر کب ہوا۔ حضورؐ کی کتنی فوج تھی؟

ج ماہ رمضان 2ھ میں 313 فوجی تھے۔

س 100 مہاجرین کا علم کسے ملا؟

ج حضرت علیؑ کو 20 برس کی عمر میں یہ علم ملا۔

س 101 بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟

ج 70 کفار مارے گئے۔

س 102 بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟

ج 14 مسلمان شہید ہوئے۔

س 103 بدر میں حضرت علیؑ نے کتنے کفار فی النار کئے

ج 35 کفار

س 104 غزوہ احد کب ہوا اور حضورؐ کی فوج کی کیا تعداد تھی؟

ج ۳ھ میں جنگ ہوئی 1000 افراد کے ہمراہ روانہ ہوئے عبداللہ بن ابی نے

300 واپس بلا لیے۔

س 105 رايت جنگ غزوہ احد میں کسے دیا گیا؟

ج حضرت علیؑ کو۔

س 106 غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟

ج 70 مسلمان

س 107 غزوہ احد میں حضورؐ کے کون سے چچا شہید ہوئے؟

ج حضرت حمزہؓ

س 108 غزوہ احد میں کتنے کفار مارے گئے۔

ج 30 کفار

س 109 نادعلیؓ کب نازل ہوئی؟

ج غزوہ احد میں

س 110 ذوالفقار کس غزوہ میں جبریل لیکر آئے؟

ج غزوہ احد میں

س 111 غزوہ احد میں حضرت علیؓ نے کتنے کفار فی النار کئے؟

ج 12 کفار قتل کیے۔

س 112 غزوہ احد میں علیؓ کو کتنی ضربات لگیں؟

ج 16 ضربات

س 113 غزوہ خندق کب ہوا؟

ج ۵ھ میں ہوا

س 114 غزوہ خندق میں کتنے کافر مارے گئے؟

ج 4 کافر مارے گئے ان میں 3 کافر حضرت علیؓ نے قتل کئے۔

س 115 کن تین کافروں کو حضرت علیؓ نے قتل کیا؟

ج عمرو بن عبدود، نوفل اور حسل کو

س 116 حضورؐ نے غزوہ خندق میں حضرت علیؓ کی کیسے تعریف کی؟

ج حضرت علیؓ کو کل ایمان قرار دیا اور ان کی اس روز کی ضربت کو ثقلین کی عبادت

سے گراں کہا۔

س 117 معرکہ خیبر کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں؟

ج ۷ھ میں ہوا 93 یہودی قتل ہوئے۔ پندرہ مسلمان شہید ہوئے۔ صفیہ بنت

حی دیگر عورتوں کے ہمراہ قید ہوئی۔ وہ آزاد ہو کر حضورؐ کے حرم میں داخل ہوئیں۔

س 118 قلعہ قنوص کس نے فتح کیا۔

ج حضرت علیؓ نے

س 119 مرحب کو کس نے مارا؟

ج حضرت علیؓ نے

س 120 غزوہ خیبر میں حضرت علیؓ کو کیا خطابات حضورؐ نے دیئے؟

ج کرار، غیر فرار، محبت و محبوب خدا و رسولؐ

س 121 جنگ موتہ کے متعلق آپؐ کیا جانتے ہیں۔

ج ۸ھ میں ہوئی حضرت جعفرؓ نے 70 سے زیادہ کفار قتل کیے۔ پھر خود شہید

ہوئے۔ جعفرؓ طیار کہلائے۔

س 122 فتح مکہ کب ہوئی؟

ج ۸ھ کو

س 123 کعبہ میں بت توڑنے کیلئے کون حضورؐ کے کندھوں پر سوار ہوا؟

ج حضرت علیؓ

س 124 حضورؐ نے پوچھا علیؓ کتنے بلند ہو؟

ج فرمایا فرشتوں کی آوازیں سن سکتا ہوں

س 125 حضرت علیؓ جب نیچے اترے تو حضورؐ نے پوچھا علیؓ چوٹ تو نہیں آئی؟

ج کہا جب رسول سوار کرنے والے ہوں اور جبریل اتارنے والے ہوں تو چوٹ کیونکر آئے۔

س 126 کعبہ میں رکھے ہوئے ہمشکل حضرت ابراہیم کے بت سے حضور نے کیا سلوک کیا؟
حضور نے اس کو دفن کروادیا۔

س 127 جنگ حنین میں حضرت علی نے کتنے کافروں کا فرما رہا

ج 40

س 128 ذی الحجہ کو کیا اہم واقعہ ہوا

ج واقعہ غدیر خم

س 129 حضور نے غدیر خم پر کیا اہم اعلان فرمایا

ج جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے

س 130 واقعہ مباہلہ کب ہوا اس میں کون شریک ہوئے

ج 24 ذی الحجہ کو نصاریٰ بنو نجران سے مباہلہ کرنے کیلئے پختن پاک تشریف لے گئے

س 131 غزوہ تبوک کب ہوا

ج 9 ہھ کو ہوا

س 132 فتح مکہ کب ہوا

ج 8 ہھ میں

س 133 فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کن مردوزن کو قتل کرنے کا حکم فرمایا تھا؟

ج عبداللہ بن سعدیہ۔ عبداللہ بن خطل۔ حویرث۔ عکرمہ بن ابوجہل۔ مقیس۔

سارہ۔ یند بنت عقبہ۔ قریبہ۔ فرتنا۔

س 134 صلح حدیبیہ کب ہوئی

ج 6 ہھ کو

س 135 غزوہ نبی مصطلق کے بعد جنگی قیدیوں میں کونسی کثیر حضور کی زوجہ بنی

ج حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار

س 136 حضور کی وفات کب ہوئی؟

ج 28 صفر 11 ہھ بروز پیر کو

س 137 حضور کے غسل کفن میں کتنے افراد شریک ہوئے؟

ج چھ افراد۔

س 138 غسل کفن میں شریک چھ افراد کے نام بتائیں

ج حضرت علی۔ فضل۔ حضرت عباس۔ قثم۔ اسامہ۔ ثمران

س 139 حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی

ج حضرت علی نے

س 140 حضور کی قبر کس نے کھودی

ج حضرت ابوطالب نے

س 141 حضور کس روز دفن ہوئے

ج بدھ کی شب کو

س 142 حضور کا روضہ اقدس کس شہر میں ہے؟

ج مدینہ منورہ میں

س 143 حضور پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا کیا نام ہے

ج قرآن پاک

س 144 قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟

ج 114 سورتیں۔

س 145 قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں

ج 6666 آیات

س 146 آیت کسے کہتے ہیں

ج آیت علامت اور نشانی کو کہتے ہیں

س 147 قرآن پاک کی سب سے طویل آیت کونسی ہے

ج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282

س 148 قرآن پاک کی سب سے مختصر آیات کونسی ہے

ج سورہ رحمن کی آیت نمبر 64

س 149 سورہ الحمد کو سب سے مثنیٰ کیوں کہتے ہیں

ج اس میں سات آیات ہیں۔ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوئی

س 150 قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں

ج پڑھا ہوا

س 151 مکہ میں حضور ﷺ پر کتنا عرصہ قرآن نازل ہوا

ج 13 برس

س 152 مدینہ میں کتنی دیر قرآن نازل ہوا

ج 10 برس تک

س 153 قرآن کونسی رات میں نازل ہوا

ج شب قدر میں

س 154 شب قدر زیادہ تر کس کو قرار دیا جاتا ہے

ج 23 ویں شب کو

س 155 قرآن میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے

ج 2584 بار

س 156 قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں

ج 26 پیغمبروں کے نام آئے ہیں

س 157 قرآن پاک میں دعائے مانگنے کی تاکید کتنی بار آئی ہے

ج 70 بار

س 158 قرآن پاک میں لفظ امام کتنی بار آیا ہے؟

ج 12 مقامات پر

س 159 قرآن میں نماز کی تاکید کتنی بار آئی ہے؟

ج سات (700) سو بار

س 160 قرآن پاک میں کتنے سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں؟

ج 29 سورہ

س 161 قرآن میں کتنے سورہ الحمد سے شروع ہوتے ہیں؟

ج 29 سورہ

س 162 وہ کونسی سورت ہے جسکی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے؟

ج سورہ مجادلہ میں

س 163 قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کونسی ہے؟

ج سورہ کوثر

س 164 قرآن میں کتنی بار لفظ الحمد آیا ہے؟

ج چار بار

س 165 حضور کی رحلت کے بعد سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟

ج حضرت علی نے

س 166 کس جنگ میں سترقاری شہید ہوئے؟

ج جنگ یمامہ میں

س 167 حضرت علی کے جمع شدہ قرآن کے بعد کس نے قرآن جمع کیا؟

ج زید بن ثابت نے

س 168 حضرت علی کی شان میں تقریباً کتنی آیات ہیں؟

ج 364 آیات

س 169 حضرت علی نے اپنا جمع شدہ قرآن لوگوں کو کیسے دکھایا؟

ج اونٹ پر لاد کر

س 170 حضرت علی نے رائج قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟

ج حضرت علی اور دیگر ائمہ معصومین نے اسے ہر طرح کی تحریف سے پاک قرار دیا

س 171 قرآن پر اعراب کس نے لگائے؟

ج حضرت علی کے شاگرد ابوالاسود دہلی نے

س 172 قرآن میں کل کتنے حروف ہیں؟

ج 267053 حروف

س 173 قرآن پاک میں عدل کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟

ج 16 جگہوں پر

س 174 حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 56 بار

س 175 حضرت علی کی خلافت و امامت کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 15 بار

س 176 فہم کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 6 بار

س 177 حضور کی عصمت کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 12 جگہ پر

س 178 جناب فاطمہ کی فضیلت و عصمت کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 5 بار

س 179 حضرت حسین کی فضیلت کا ذکر قرآن میں کن سورتوں میں آیا ہے؟

ج سورہ رحمن۔ دہر۔ کوثر

س 180 اہل بیت کی فضیلت کا ذکر قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا ہے؟

ج 14 مقامات پر

س 181 شفاعت کا ذکر کن سورتوں میں آیا ہے؟

ج بقرہ۔ نساء۔ مریم۔ طہ۔ انبیاء۔ سبا۔ زمر۔ مدثر

س 182 زکوٰۃ صدقات، خیرات اور مصارف کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 43 بار

س 183 روزہ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 2 بار

س 184 حج عمرہ طواف کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 8 بار

س 185 جہاد کی ترغیب اور ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 13 بار

س 186 امر و نہی کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟

ج 7 بار

س 187 حضور کے چند فرمودات بتائیں۔

ج (۱) قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولہ جائے گا۔ اس وقت

علماء کی روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔

(۲) خدا نہ تمہاری صورت کو دیکھے گا نہ مال کو وہ تمہارے دل اور کردار کو دیکھے گا

(۳) مومن ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاتا

(۴) جو شخص حج کو باوجود استطاعت کا اتار ہے یہاں تک کہ قیامت کے روز میں

خدا اس کو یہودی یا نصرانی مبعوث کرے گا

(۵) جو شخص اپنے عمل کو خلوص کے ساتھ پے در پے چالیس روز اپنے خدا کے لئے

کرے تو خدا اس کے قلب سے حکمت و معرفت کے چشمے اسکی زبان پر جاری کر دیتا

ہے

س 188 حضور نے تبلیغ اسلام کے لئے ایران کس صحابی کو بھیجا؟

ج عبداللہ بن خداقہ السعفی۔

س 189 حضور نے مصر میں مقوقس کو دعوت دینے کے لئے کسے بھیجا۔

ج حاطب بن ابی بلیفہ

س 190 حضرت دحیہ کلبیؓ کو کس ملک میں تبلیغ کے لئے بھیجا؟

ج روم میں

س 191 صدان میں حضور نے اسلام کی تبلیغ کے لئے کس ہستی کو روانہ کیا

ج حضرت علی علیہ السلام

س 192 ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لئے کس صحابی کو حضور نے بھیجا؟

ج خذیفہ بن الیمان

س 193 حضرت رسول مقبولؐ نے عبداللہ بن عویجہ کو کون کی طرف بھیجا

ج قبیلہ۔ حارثہ بن قریظہ کی طرف

س 194 حضور نے حضرت علیؓ کی شان میں بے شمار احادیث بیان فرمائی چند بیان

فرمائیں

ج ۱۔ علیؓ میری اصل ہے۔ ۲۔ علیؓ میرے علوم کا ظرف ہیں۔ ۳۔ علیؓ میرے

رازوں کا خزینہ دار ہے۔ ۴۔ علیؓ مومنین کے سردار ہے۔ ۵۔ علیؓ ہم سب سے بہتر

فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ۶۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؓ اس کا دروازہ ہے

۷۔ اے علیؓ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ ۸۔ میں اور علیؓ بندگان خدا پر خدا کی

محبت ہیں، ۹۔ سب سے پہلے میرے ساتھ علیؓ نے نماز پڑھی، ۱۰۔ اے علیؓ ہم اور

آپ ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جنت میں داخل ہوں گے، ۱۱۔ میرا ہاتھ اور

علیؓ کا ہاتھ عدل ہیں برابر ہیں، ۱۲۔ جنت چار شخصوں کی مشتاق ہے۔

علیؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ اور مقدادؓ

س 195 حضرت ابوطالب نے حضورؐ سے اپنی حمایت کا کن الفاظ میں اظہار کیا؟

ج حضرت ابوطالب نے شعر میں فرمایا۔

ترجمہ۔ خدا کی قسم وہ اپنی جمعیت کے ساتھ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے دفن کر کے مٹی میں نیک لگا کر لٹانہ دیا جائے گا

س 196 حضرت ابوطالب نے دین اسلام کی تعریف کن الفاظ میں کی۔

ج اپنے شعر میں فرمایا

ترجمہ۔ اور تو نے وہ دین پیش کیا جو یقیناً دنیا کے ادیان میں بہترین دین ہے

س 197 حضرت علیؑ نے حضورؐ کی شجاعت کا کن الفاظ میں اظہار کیا؟

ج ایک شعر میں فرماتے ہیں

ترجمہ۔ رسول اللہؐ ہمارے لئے ایک مضبوط قلعہ تھے کہ ہر دشمن سے پناہ

اور حفاظت حاصل ہوتی تھی۔

س 198 حضورؐ کی وفات پر حضرت علیؑ کیسے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔

ج ترجمہ شعر۔ نبی کو کپڑوں میں کفن دینے کے بعد اس مرنے والے کے غم میں

غمگین ہوں جو خاک میں جا بسا۔

ترجمہ شعر۔ اور ہر نماز کے وقت بلالؓ ایک نیا بیجان پیدا کر دیتے ہیں جب کہ وہ

(بلالؓ) ان کا نام لے کر پکارتے ہیں

س 199 حضرت فاطمہؑ نے حضورؐ کی وفات پر کیسے غم کا اظہار کیا؟

ج ترجمہ شعر۔ جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد بختیٰ سونگھ لی تعجب کیا ہے اگر

وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگھے۔

س 200 حضرت فاطمہؑ نے حضورؐ کی وفات پر کیسے غم کا اظہار کیا؟

شعر کا ترجمہ۔ (حضورؐ کی جدائی میں) وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں اگر یہ مصیبتیں

دنوں پر ٹوٹیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

(۲) حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا

س 1 حضرت فاطمہؑ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟

ج 5 بخت کو مکہ میں پیدا ہوئیں۔

س 2 حضرت فاطمہؑ کے والدین کے اسمائے گرامی بتائیں؟

ج حضرت محمدؐ اور حضرت خدیجہؑ

س 3 حضرت فاطمہؑ کا نام کس نے رکھا؟

ج رسول خداؐ نے۔

س 4 فاطمہؑ کے کیا معنی ہیں؟

ج امام موسیٰ کاظمؑ نے حضورؐ سے روایت نقل کی ہے کہ اپنے صحیح اور سچے پیروکاروں کو

جہنم کی آگ سے بچانے والی۔

س 5 حضرت فاطمہؑ زہراؑ کے اللہ کے ہاں کتنے نام ہیں؟

ج امام جعفر صادقؑ نے فرمایا۔ فاطمہ۔ صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، محدثہ اور

زہرا۔

س 6 حضرت فاطمہؑ کے دیگر اسمائے کیا ہیں؟

ج حصان، حرہ، سیدہ، عذرا۔ حورا۔ مریم کبریٰ اور بتول

س 7 حضرت فاطمہؑ کی کنیت بیان کریں؟

ج ام الحسن۔ ام الحسین۔ ام المحسن۔ ام الائمہ۔ ام ابیہا۔ ام المؤمنین

س 8 حضرت فاطمہؑ کے بھائیوں کے نام بتائیں۔

ج قاسم۔ عبداللہ۔ ابراہیم

9 س حضرت فاطمہؑ کی کتنی عمر تھی جب حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا؟
ج پانچ برس۔

10 س حضرت فاطمہؑ کی شادی کب ہوئی؟

ج یکم ذی الحجہ ۲ھ کو۔

11 س حضرت فاطمہؑ کے جہیز میں کل کتنی چیزیں تھیں؟

ج 16 اشیاء

12 س حضرت فاطمہؑ کی کتنی اولادیں تھیں؟

ج 3 بیٹے۔ 2 بیٹیاں

13 س حضرت فاطمہؑ کے کتنے بیٹے امام ہیں؟

ج 11 بیٹے یعنی امام حسنؑ سے امام مہدیؑ تک۔ نسلًا بعد نسلًا

14 س حضورؐ نے حضرت فاطمہؑ کی کیا فضیلت بیان کی؟

ج فاطمہؑ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہؑ میرا نکلنا ہیں۔ حضورؐ آپ کا استقبال کرتے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ فاطمہؑ مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہیں۔

15 س حضورؐ نے فاطمہؑ سے پوچھا عورت کیلئے کیا چیز بہتر ہے؟

ج فرمایا:۔ ندوہ نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ نامحرم اسے دیکھے۔

16 س تسبیح حضرت فاطمہؑ کیا ہے؟

ج 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 بار الحمد للہ، 33 بار سبحان اللہ

17 س حضرت فاطمہؑ کی کینز کا کیا نام تھا؟

ج حضرت فاطمہؑ

18 س حضرت فاطمہؑ کا اصل نام کیا تھا؟

ج میمونہ

19 س حضرت فاطمہؑ کے والدین کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟

ج ملک حبشہ سے۔

20 س حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کی شادی کس سے کی۔

ج ابولثعلبہ حبشی سے۔

21 س ابولثعلبہ کی وفات کے بعد ان کا عقد کس سے کیا؟

ج ابوسلیک عطفائی سے۔

22 س حضرت فاطمہؑ نے کتنے برس صرف قرآنی آیات میں باتیں کیں۔

ج بیس برس۔

23 س حضرت فاطمہؑ کہاں دفن ہیں؟

ج شام میں

24 س حضرت فاطمہؑ کی وفات کب ہوئی؟

ج جمادی الثانی ۱۱ھ کو

25 س حضرت فاطمہؑ کو کفن کس نے پہنایا؟

ج حضرت علیؑ نے۔

26 س حضرت فاطمہؑ کہاں دفن ہیں؟

ج جنت البقیع میں

27 س حضرت فاطمہؑ کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟

ج 13 افراد

28 س وفات کے وقت آپؑ کی کتنی عمر تھی؟

ج 18 برس تھی۔

س 29 حضرت فاطمہ کا نظام عمل کیا تھا؟

ج ایک روز حضرت فضہؓ کام کرتیں۔ اگلے روز خود کام کرتیں۔

س 30 حضرت فاطمہؓ کا جہاد کس نوعیت کا تھا؟

ج حضورؐ کے زخموں کو صاف کیا۔ علیؓ کی تلوار صاف کرتیں۔ مہلبہ کے میدان میں روحانی فتح حاصل کی۔

س 31 حضرت فاطمہؓ نے ذک کی گواہی کیلئے کن کو پیش کیا؟

ج حضرت علیؓ۔ حضرت حسنؓ۔ حضرت حسینؓ۔ ام ایمنؓ، اور رباح کو۔

س 32 حضرت فاطمہؓ نے اپنے مصائب کا اظہار کن لفظوں میں کیا؟

ج ابا جان! آپؐ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں اگر دنوں پر پڑتیں تو مثل شب کے ہو جاتے۔

س 33 سب سے پہلے کس کی میت تابوت میں رکھی گئی؟

ج حضرت فاطمہؓ کی۔

س 34 حضرت فاطمہؓ روز محشر کس طرح میدان محشر میں داخل ہوئیں؟

ج حضورؐ نے فرمایا۔ اونٹ پر سوار ہوئیں۔ پیشانی سے نور خدا ساطع ہوتا ہوگا۔ سر جھکا ہوگا۔ جبریلؑ و میکائیلؑ دائیں بائیں ہونگے۔ حضرت علیؓ سواری کے آگے اور حسینؓ پیچھے ہونگے۔

س 35 بتولؑ کی میدان میں آمد پر اللہ کیا آواز دے گا؟

ج لوگو! آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا لو۔ تمہارے رسولؐ کی بیٹی۔ تمہارے امام

علیؓ کی زوجہ اور حسینؓ کی والدہ آرہی ہیں۔

س 36 حضرت فاطمہؓ اللہ سے کیا چاہیں گیں؟

ج مہمان آل محمدؐ کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا جائے

س 37 کیا اللہ اس درخواست فاطمہؓ کو قبول کرے گا؟

ج جی ہاں۔

س 38 حضورؐ سفر پر آتے جاتے کس سے پہلے ملتے؟

ج حضرت فاطمہؓ سے

س 39 کس مستور نے رحلت رسولؐ کے بعد بلالؓ سے اذان دینے کا کہا؟

ج حضرت فاطمہؓ نے

س 40 حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کیلئے اپنے باپ پر رونے کیلئے کیا انتظام کیا۔

ج جنت البقیع میں بیت الحزن بنا دیا۔

س 41 حضورؐ کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہؓ کتنے روز زندہ رہیں؟

ج 75 روز تک

س 42 حضرت فاطمہؓ کی کتنی قبریں بنائی گئیں؟

ج سات

س 43 حضرت فاطمہؓ کی سات قبریں کیوں بنائی گئیں؟

ج تاکہ اصل قبر کا پتہ نہ چل سکے۔

س 44 قرآن کے چند مقام بتائیں جہاں حضرت فاطمہؓ کی فضیلت بیان کی گئی۔

ج آیہ مہلبہ، آیہ مودت، سورہ کوثر، سورہ دہر، آیہ تطہیر۔

س 45 جناب سیدہؓ کے چند اقوال بتائیں؟

ج (۱) اللہ نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا

(۳) امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام

س 1 حضرت علی کے جد اعلیٰ کون تھے؟

ج حضرت ابراہیم علیہ السلام

س 2 حضرت علی کے والد ماجد کا نام بتائیں؟

ج حضرت ابوطالب

س 3 حضرت علی کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیں؟

ج حضرت فاطمہ بنت اسد

س 4 حضرت علی کی ولادت کس جگہ ہوئی؟

ج بیت اللہ یعنی کعبہ میں اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔

س 5 حضرت علی سے پہلے یا بعد میں کس کو یہ شرف ملا؟

ج تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ درن نہیں ہے۔

س 6 جب حضرت فاطمہ بنت اسد ولادت کے وقت کعبہ کے پاس گئیں تو آپ

نے کیا فرمایا؟

ج اے میرے رب میں تجھ پر اور ترے نبیوں پر اور تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر

ایمان رکھتی ہوں تو اس باعزت گھر اس کے معمار اور اس مولود کے صدقے جو

میرے شکم میں ہے میری مشکل حل کر اور اسکی ولادت میرے لیے آسان کر دے

مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی ایک روشن نشانی ہے۔

س 7 حضرت فاطمہ بنت اسد کتنے روز بیت اللہ میں رہیں؟

ج تین روز

(۲) اللہ نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کیلئے زکات قرار دی

ہے۔

(۳) خدا نے تمہارے اخلاص کی استواری و برقراری کیلئے روزہ قرار دیا۔

(۴) اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کیلئے ڈھال قرار دیا

ہے۔

(۵) اللہ نے صلہ رحم کو سبب بلندی و طول عمر قرار دیا ہے۔

8 س حضور جب کعبہ میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علیؑ کے متعلق کیا کہا۔

ج نہ اس بچے نے آنکھیں کھولی ہیں نہ دودھ پیا ہے اور نہ رویا ہے۔

9 س حضورؐ نے اس وقت کیا عمل کیا؟

ج حضورؐ نے حضرت علیؑ کو گود میں لے لیا۔ علیؑ نے آنکھیں کھول کر حضورؐ کی زیارت کی۔ پھر حضورؐ نے اپنی زبان علیؑ کے منہ میں دے دی۔ علیؑ نے جی بھر کر زبان کو چوسا۔ پھر حضرت علیؑ نے کلام الہی حضورؐ کو سنایا۔

10 س حضرت علیؑ کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا؟

ج حضورؐ نے

11 س بچپن میں حضرت علیؑ حضورؐ کی کیا خدمت کرتے رہے؟

ج حضورؐ کو بچوں کے شر سے بچاتے رہے۔

12 س حضرت علیؑ کب پیدا ہوئے؟

ج 13 رجب المرجب ۳۰ عام الفیل بروز جمعہ

13 س حضرت علیؑ کے کتنے بہن بھائی تھے۔

ج 3 بھائی اور 3 بہنیں

14 س حضرت علیؑ کے بہن بھائیوں کے نام بتائیں؟

ج طالب۔ عقیل۔ جعفر۔ ریطہ۔ جمانہ۔ فاختہ

15 س حضرت علیؑ کی کس بہن کو ام ہانی کہتے تھے؟

ج فاختہ کو

16 س فاطمہ بنت اسد کی فضیلت بیان کریں؟

ج آپ سابق الاسلام تھیں۔ حضورؐ کے ساتھ ہجرت کی۔ محمدؐ اور علیؑ کی پرورش کی۔ جعفرؑ طیار اور علیؑ جیسے شہید بیٹے اسلام کی راہ میں دیئے۔ حضورؐ آپ کو ماں کہتے تھے۔ حضورؐ نے کفن میں اپنی قمیض دی اور خود قبر میں لیٹے۔ تلقین بھی حضورؐ نے سنائی۔

17 س حضرت ابوطالبؓ حضورؐ سے کتنے بڑے تھے؟

ج 35 برس

18 س حضرت ابوطالبؓ نے حضورؐ کا خطبہ نکاح کیسے پڑھا۔

ج الحمد للہ الذی سے شروع کیا۔ ذریت ابراہیمؑ ہونے کا ذکر کیا۔ کعبہ کی نگہبانی و

پاسبانی ج کا تذکرہ تھا اپنی حاکمیت کا ذکر تھا۔ حضورؐ کے فضائل بیان کئے۔ علاوہ

ازیں فرمایا خدا کی قسم ان کا مستقبل عظمت بکنار اور ان سے عظیم خیر کا ظہور ہوگا۔

19 س حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوطالبؓ کی وفات میں کتنا فاصلہ ہے؟

ج ایک ماہ اور پانچ دن بعد حضرت خدیجہؓ نے وفات پائی۔

20 س حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوطالبؓ نے اسلام کی خدمت کیسے کی؟

ج حضرت خدیجہؓ کا مال اور خلوص حضرت ابوطالبؓ کی اولاد اور شجاعت اسلام کے

کام آئی۔

21 س دعوت ذی العشرہ کا کس نے اہتمام کیا؟

ج حضرت علیؑ نے

22 س حضورؐ نے شب ہجرت کس کو اپنے بستر پر سلا یا؟

ج حضرت علیؑ کو

23 س اللہ نے ملاء اعلیٰ میں اس جاٹاری علیؑ کی کیسے تعریف کی؟

ج فرشتوں میں فخر کیا۔ جبریل و میکائیل کو حفاظت کیلئے بھیجا اور آیہ من یشری نازل کی اللہ نے علی کی جان کو اپنی مرضات کے عوض خرید لیا۔

س 24 حضرت علیؑ مکہ سے ہجرت کے بعد کس مقام پر حضورؐ سے آئے؟
ج قبا کے مقام پر

س 25 حضورؐ نے مواخات کے عمل میں حضرات علیؑ کو کس کا بھائی بنایا؟
ج حضورؐ نے حضرت علیؑ کو اپنا بھائی بنایا۔

س 26 مواخات کے وقت حضورؐ نے حضرت علیؑ کے متعلق کیا فرمایا؟
ج یا علی انت انشی فی الدنیا والاخرہ (اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں)

س 27 ۲ھ میں جو اہم امور سامنے آئے ان کا ذکر کریں؟

ج 15 رجب ۲ھ کو حضرت فاطمہؑ کی شادی حضرت علیؑ سے ہوئی۔

اسی سال غزوہ بدر ہوا۔ حضورؐ نے اسی برس حضرت علیؑ کو ابوتراب کا لقب دیا۔

تحويل کعبہ بھی ماہ شعبان ۲ھ میں ہوا۔

س 28 حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی کیا اولادیں تھیں؟

ج امام حسنؑ، امام حسینؑ، حضرت محسنؑ شہید، حضرت زینبؑ، حضرت ام کلثومؑ

س 29 حضرت علیؑ نے دوسری شادی کس خاتون سے کی۔

ج حضرت ام البنین سے۔ ان کا تین بچے بھی فاطمہؑ تھے۔

س 30 حضرت علیؑ کی کل کتنی اولادیں تھیں؟

ج 28 بیٹے اور بیٹیاں

س 31 غزوہ احد کب ہوا؟

ج ۳ھ کو

س 32 حضرت حمزہؑ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟

ج غزوہ احد میں

س 33 کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا؟

ج حضرت حظلہؓ کو

س 34 حضرت علیؑ کی شجاعت و بہادری پر انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا؟

ج لافتحی الاعلیٰ لاسیف الاذول افتخار کا تمغہ اور ذوالفقار

س 35 حضورؐ اور حضرت علیؑ کی تلواروں کو غزوہ احد کے بعد کس نے صاف کیا؟

ج حضرت فاطمہؑ نے

س 36 غزوہ بدر میں حضرت علیؑ نے کتنے کافر قتل کئے؟

ج 35 کافر

س 37 غزوہ احد میں حضرت علیؑ نے کتنے کافر قتل کئے؟

ج 12 کافر

س 38 کیا نادر علیؑ غزوہ احد میں نازل ہوئی؟

ج جی ہاں

س 39 غزوہ خندق میں حضرت علیؑ نے کیا کارنامے انجام دیئے؟

ج عمر بن عبدود اور اس کے دو ساتھیوں کو مارا۔

س 40 حضورؐ نے حضرت علیؑ کو کن الفاظ کے ساتھ غزوہ خندق میں جہاد کیلئے بھیجا؟

ج آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔

س 41 جب حضرت علیؑ نے عمر بن عبدود کو فی النار کیا تو حضورؐ نے کیا فرمایا؟

ج علیؑ کی یوم خندق کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔

س 42 خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟

ج حضرت سلمان فارسیؓ نے۔

س 43 غزوہ خندق میں حضورؐ کی کتنی فوج تھی؟ اور کفار کی کتنی فوج تھی؟

ج حضورؐ کی فوج تین ہزار تھی اور کفار دس ہزار تھے۔

س 44 غزوہ خندق کے دوران قلعہ فارع کا چکر کاٹنے والے یہودی کو کس نے قتل کیا؟

ج حضرت صفیہؓ بنت عبدالمطلبؓ نے

س 45 غزوہ خندق میں دشمن کی افواج کے متعلق خفیہ طریقے سے کس نے حضورؐ کو بتایا؟

ج حضرت حذیفہؓ بن یمانؓ نے

س 46 غزوہ بنی قریظہ میں حضورؐ نے علم کسے عطا کیا؟

ج حضرت علیؓ کو

س 47 بنی قریظہ کا محاصرہ کتنی دیر جاری رہا؟

ج ایک ماہ پچیس دن

س 48 حضرت جبریلؑ بنی قریظہ کو موعوب کرنے کیلئے کس صحابی کی شکل میں آئے؟

ج دجیہؓ کلبی کی شکل میں۔

س 49 حضرت سعد بن معاذؓ نے بنی قریظہ کے سلسلے میں کیا فیصلہ سنایا؟

ج مردوں کو قتل کرنے ان کی املاک کو تقسیم کرنے اور ان کے بیوی بچوں کو غلام

بنالینے کا فیصلہ سنایا۔

س 50 بنی قریظہ کے کتنے مرد قتل کئے گئے؟

ج چھ سو نو سو تک۔

س 51 صلح حدیبیہ کب ہوئی اور معاہدہ کس نے لکھا؟

ج ۶ صلح ہوئی اور معاہدہ حضرت علیؓ نے لکھا۔

س 52 غزوہ خیبر کب ہوا؟

ج ۶ ہجری کو۔

س 53 حضورؐ نے یہ اعلان کس کے متعلق کیا تھا میں کل علم ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس

کے رسولؐ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسولؐ سے محبت کرتے ہیں۔؟

ج حضرت علیؓ کے متعلق

س 54 غزوہ خیبر میں حضرت علیؓ کے رجز کے چند الفاظ بتائیں؟

ج میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں نہایت تند خواہ اور بہادر

شیر نیستاں ہوں۔

س 55 فاتح خیبر کن کا لقب ہے؟

ج حضرت علیؓ کا۔

س 56 صفیہؓ بنت حنی بن اخطب زوجہ رسولؐ کس غزوہ میں کنیز بن کر آئیں؟

ج غزوہ خیبر میں

س 57 جو یہ زوجہ رسولؐ کس غزوہ میں کنیز بن کر آئیں؟

ج غزوہ بنی مصطلق میں۔

س 58 ماریہ قبطیہ زوجہ رسولؐ والدہ حضرت ابراہیمؑ کو کس نے حضورؐ کو عطا کیا؟

ج مقوقس بادشاہ اسکندریہ نے۔

س 59 اہل فدک نے کس غزوہ کے بعد حضورؐ سے معاہدہ کیا؟

ج غزوہ خیبر کے بعد

س 60 اہل فدک سے معاہدے کے بعد حضورؐ کے حصے میں کیا آیا؟

ج فدک محض رسول اللہ کا خاصہ ہوا۔

س 61 سریہ موتہ کب ہوا اور حضرت علیؑ کے کون سے بھائی اس سریے میں شہید ہوئے؟

ج ۸۔ ھ کو یہ جنگ لڑی گئی۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔

س 62 فتح مکہ کب ہوئی۔ کعبہ میں رکھے ہوئے بت کس نے حضورؐ کے کندھوں پر سوار ہو کر توڑے۔

ج ۸۔ ھ میں فتح مکہ ہوئی اور حضرت علیؑ نے بت توڑے۔

س 63 غزوہ حنین کب ہوا؟ مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی۔

ج ۸۔ ھ میں 10 ہزار

س 64 غزوہ حنین میں حضرت علیؑ کی خدمات پر مختصر روشنی ڈالیں؟

ج غزوہ حنین میں حضرت علیؑ نے 40 کافر قتل کئے۔

س 65 غزوہ تبوک کب ہوا۔ اور حضرت علیؑ کو مدینے میں چھوڑتے وقت حضورؐ نے کیا فرمایا؟

ج یہ غزوہ ۹۔ ھ میں ہوا۔ حضورؐ نے فرمایا۔

”اے علیؑ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وحی نسبت ہے

جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

س 66 آخری حج سے واپسی پر حضورؐ نے غدیر خم پر کیا اعلان فرمایا؟

ج جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ حضرت علیؑ کی دستار بندی ہوئی اور مبارک سلامت ہوئی۔

س 67 حضورؐ کی وفات کے وقت آپؐ کا سر کن کو گود میں تھا؟

ج حضرت علیؑ کو گود میں تھا۔

س 68 حضرت علیؑ کو ظاہری طور پر کب خلیفہ بنایا گیا؟

ج ۳۵۔ ھ میں مدینہ منورہ میں حضرت علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔

س 69 حضرت ام سلمہؓ نے اپنے کس بیٹے کو حضرت علیؑ کو دیا کہ یہ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوگا۔

ج عمرؓ یہ آخر دم تک حضرت علیؑ کے ساتھ رہے اور انہیں بحرین کا عامل بھی بنایا گیا۔

س 70 کس جنگ میں صلح کیلئے ایک جوان قرآن اٹھا کر فوج مخالف کے سامنے آ گیا؟

ج جنگ حمل میں

س 71 جنگ حمل میں پہلا شہید کون تھا؟

ج یہی جوان جو قرآن اٹھا کر لے گیا تھا۔

س 72 جنگ حمل میں علم محمد حنفیہ سے کس نے واپس لیا۔

ج حضرت علیؑ نے

س 73 حضرت علیؑ بصرہ میں کتنے روز رہے؟

ج 3 روز

س 74 حضرت علیؑ نے مختلف صوبوں کے گورنرز کن کو بنایا؟

ج شام کا گورنر سہیل کو۔ عبد اللہ کو یمن کا۔ سعید کو بحرین کا۔ ساعدہ کو تہامہ کا۔ عون کو

یرامہ کا۔ قیس کو مصر۔ عثمان بن حنیف کو بصرہ۔ عمار کو کوفہ کا اور قسم کا گورنر

بنایا۔

س 75 جنگ جمل میں حضرت علیؑ کی فوج نے کتنے لوگوں کو مارا؟

ج 13 ہزار

س 76 جنگ صفین میں علیؑ کی فوج میں کتنے سپاہی تھے؟

- ج نوے ہزار
س 77 جنگ صفین میں مخالف فوج کی کتنی تعداد تھی؟
ج ایک لاکھ تیس ہزار
س 78 جنگ صفین میں کون کون مشہور صحابی شہید ہوئے؟
ج حضرت عمارؓ یا سرؓ، اویسؓ قرنی
س 79 جنگ صفین میں طرفین کے کتنے لوگ مارے گئے؟
ج چھتیس ہزار
س 80 جنگ نہروان کن کے درمیان لڑی گئی؟
ج حضرت علیؓ اور خوارج کے مابین
س 81 جنگ نہروان میں حضرت علیؓ کے کتنے سپاہی شہید ہوئے؟
ج 9 افراد
س 82 جنگ نہروان میں خوارج کے کتنے سپاہی مارے گئے؟
ج 3 ہزار نو صد اکانوے
س 83 جنگ نہروان میں کتنے خوارج بچ گئے؟
ج 9 خوارج
س 84 جنگ صفین میں لیلۃ الہریر کو علیؓ نے کتنے مخالف سپاہی مارے؟
ج نو صد اکانوے
س 85 حضرت علیؓ پر مسجد کوفہ میں کس نے قاتلانہ حملہ کیا۔
ج عبدالرحمن ابن ملجم نے
س 86 حضرت علیؓ کی شہادت کب ہوئی؟

- ج 21 رمضان ۴۰ھ کو
س 87 حضرت علیؓ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
ج امام حسن علیہ السلام نے
س 88 امام حسنؓ نے حضرت علیؓ کی نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں؟
ج سات تکبیریں کہیں
س 89 عبدالرحمن ابن ملجم کا کیا انجام ہوا؟
ج اسے امام حسنؓ نے قتل کر دیا۔
س 90 حضرت علیؓ کا روضہ مبارک کس شہر میں ہے۔
ج نجف اشرف (عراق) میں ہے
س 91 کس معصوم کا قول ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں؟
ج حضرت علیؓ کا قول ہے۔
س 92 حدیث سفینہ کا ترجمہ سنائیں؟
ج میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔
س 93 قرآن نے حضورؐ کو ذکر کہا ہے آل رسولؐ کون ہیں؟
ج آل رسولؐ اہل الذکر ہیں
س 94 من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ کس معصوم کا ارشاد ہے؟
ج حضرت علیؓ کا ارشاد ہے
س 95 میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کس کا ارشاد ہے؟
ج حضرت علیؓ کا ارشاد ہے

س 106 حضرت علیؑ نے ستاروں میں آبادی کے متعلق کیا فرمایا
ج ان آسمانی ستاروں میں تمہارے شہروں کی مانند شہر ہیں۔ اور یہ شہر باہمی عمود و نور

سے منسلک ہیں

س 107 صحیفہ علویہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں

ج یہ حضرت علیؑ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے

س 108 چند دعاؤں کے نام بتائیں

ج یستغیر، مثلول، صباح، صبحی قریش، دعائے یمانی، دعائے کسلی،

س 109 صحیفہ علویہ کے مولف کا نام بتائیں

ج شیخ عبداللہ بن محمد صالح اخباری بحرانی سہلکی

س 110 اردو زبان میں صحیفہ علویہ کا ترجمہ کس نے کیا

ج علامہ الحاج سید مرتضیٰ صاحب فاضل لکھنوی نے

س 111 دیوان علیؑ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں

ج عربی میں دیوان موجود ہے۔ حاجی محمد ذکی نے 1971ء ادب منزل یا کراچی

سے چھاپا ہے۔ اس میں 477 موضوعات پر اشعار قلمبند کئے گئے ہیں، علم

وحکمت کا بے پناہ خزانہ ہے۔

س 112 حضرت علیؑ نے سونابنانے کا نسخہ اپنے کلام میں کیسے بیان فرمایا ہے

ج لے پارہ اور ابرک اور وہ شے جو بجلی سے مشابہ ہے۔ پس ملا اسکو ہوگا بادشاہ مشرق

و مغرب کا۔

س 113 حضورؐ کے حلیہ کے متعلق حضرت نے کتنے شعر لکھے ہیں۔

ج 57 اشعار لکھے ہیں

س 96 کس نے فرمایا اے علیؑ میں صاحب تنزیل ہوں اور آپ صاحب تاویل ہیں؟

ج حضورؐ نے فرمایا۔

س 97 کس نے قرآن جمع کرنے کیلئے سوائے نماز کے عبا نہ اوڑھنے کی قسم کھائی تھی؟

ج حضرت علیؑ نے

س 98 حضرت علیؑ کے ہاتھ کا لکھا ہوا 92 اوراق قرآن کا نسخہ کس مکتبے میں موجود ہے؟

ج مکتبہ رضویہ مشہد مقدس میں

س 99 68 اوراق قرآن کا نسخہ حضرت علیؑ کہاں ہے؟

ج مکتبہ رضویہ مشہد مقدس میں

س 100 حضرت علیؑ کا تحریر شدہ ۴۰۰ کا قرآن کا نسخہ کہاں ہے؟

ج مکتبہ نجف اشرف میں۔

س 101 سبع مثانی حضرت علیؑ نے کس سورہ کو قرار دیا؟

ج سورہ الحمد کو

س 102 حضرت علیؑ نے سورہ الحمد کی تفسیر کے متعلق کیا فرمایا؟

ج اگر اسکی تفسیر بیان کروں تو ستر اونٹ کا بار بن جائے۔

س 103 حضرت علیؑ نے اللہ کے کیا معنی بیان کئے؟

ج اللہ سے مراد وہ معبود ہے جس کے بارے میں کائنات حیران و سرگرداں ہے۔

س 104 حضرت علیؑ نے سورج کا محیط کتنا بیان کیا ہے۔

ج نو سو ضرب نو سو فرسخ = 900x900 = 810000

س 105 حضرت علیؑ نے چاند کا کتنا محیط بیان کیا۔

ج 40x40 فرسخ

س 114 حضرت علیؑ نے علم و ادب کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

ج علم و ادب کو بچپن میں حاصل کرنے کی مثال پتھر پر نقش کرنے کی ہے۔

س 115 مفسرین نے کتنی آیات حضرت علیؑ کی شان میں گنوائی ہیں؟

ج 364 آیات

س 116 قرآن پر اعراب کس نے لگائے؟

ج حضرت علیؑ کے شاگرد ابوالاسود دہلی نے۔

س 117 نہج البلاغہ کو کس نے تالیف کیا؟

ج سید شریف رضیؒ نے

س 118 نہج البلاغہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے

ج تین حصوں میں۔ یعنی خطبات، خطوط اور کلمات حکمت۔

س 119 نہج البلاغہ میں حضرت علیؑ کے خطبات خطوط اور کلمات حکمت کی کتنی تعداد ہے

ج خطبات 239، خطوط 79، کلمات حکمت 480

س 120 نہج البلاغہ کب مرتب کی گئی اور کتنا عرصہ لگا۔

ج چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں مرتب ہوئی اور 20 برس صرف ہوئے

س 121 اردو زبان میں نہج البلاغہ کا بہترین ترجمہ کونسا ہے۔

ج سرکار علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ

س 122 غرر الحکم، درر الکلم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں

ج یہ کتاب حضرت علیؑ کے مختصر کلمات پر مشتمل ہے یہ کلمات نہج البلاغہ میں نہیں ہیں

اس کے مولف عبدالواحد تہجدی ہیں اس کتاب میں دس ہزار سے زائد کلمات قصار

حروف تہجد کی ترتیب سے ہیں

س 123 نہج الاسرار کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔

ج نہج البلاغہ کے علاوہ خطبات امیر المومنین کا مجموعہ ہے اس میں چالیس خطبات

اسرار کی ارشادات، مفاہیم، مواعظ، فضائل آل اطہار، قضایا، علائم راظہور ہیں

س 124 حضرت علیؑ کے فرمان کے مطابق کونسی چیز ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے

ج زہد کا مخفی رکھنا۔

س 125 حضرت علیؑ بہترین دولت مندی کسے قرار دیتے ہیں۔

ج تمناؤں کا ترک کرنا

س 126 حضرت علیؑ علماء کی موت کو کیسا قرار دیتے ہیں۔

ج دین کے اندر شگاف قرار دیتے ہیں

س 127 حضرت علیؑ کلام کی خوبی کسے کہتے ہیں

ج اختصار کو

س 128 حضرت علیؑ کس چیز کو انسان کی مدد دیتے ہیں۔

ج حلم کو

س 129 بقول امیر المومنین انسان کی سلامتی کس چیز میں ہے

ج زبان کی خاموشی میں

س 130 حضرت علیؑ اعلیٰ ترین رتبہ کسے قرار دیتے ہیں

ج علم کے مرتبے کو

س 131 حضرت علیؑ نے عبادت کی کتنی قسمیں بیان فرمائی ہیں

ج تین قسمیں۔ (۱) تاجرانہ یعنی نعمتوں اور جنت کی چاہت ہیں

(۲) غلامانہ یعنی عذاب الہی کے خوف ہیں

(۳) اصل بندگی عجز اور معرفت قلب کے ساتھ ہے

س 132 حضرت علیؑ خوش اخلاقی کے متعلق کیا فرماتے ہیں

ج بہترین نعمت

س 133 حضرت علیؑ دل کی شفاء کے قرار دیتے ہیں

ج قراءت قرآن کو

س 134 حضورؐ کی نگاہ میں حب علیؑ، ذکر علیؑ، اور علیؑ کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے

ج عبادت ہے

س 135 محبت علیؑ کو؟ حضورؐ کیا قرار دیتے ہیں

ج ایمان کی نشانی قرار دیتے ہیں

س 136 حضورؐ کے مطابق محبت علیؑ گناہوں سے کیا سلوک کرتی ہے

ج محبت علیؑ گناہوں کو کھاجاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ

س 137 حضرت علیؑ نے اپنی ذات کے متعلق کیا دعویٰ کیا ہے

ج میں نقطہ ہائے بسم اللہ ہوں

س 138 آیہ نبویؐ کس کی شان میں نازل ہوئی اس آیت پر کس نے عمل کیا

ج حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی صرف آپؐ ہی نے اس پر عمل کیا

س 139 اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضات کے بدلے میں حضرت علیؑ سے کیا خریدا۔

ج حضرت علیؑ کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے خریدا

س 140 آیہ بلغ کب نازل ہوئی

ج جب حضورؐ آخری حج سے واپس آئے تو آیت نازل ہوئی۔

س 141 حضورؐ نے آیہ بلغ کے نزول پر کیا عمل کیا

ج آپؐ نے غدیر خم کے مقام پر اصحاب کو اکٹھا کیا، پالانوں کا سہر بنایا اور حضرت

علیؑ کی ولایت کا اعلان فرمایا

س 142 حضرت علیؑ کی غدیر خم پر دستار بندی کے موقع پر کس نام کا عمامہ پہنایا گیا

ج صحاب نام کا عمامہ پہنایا گیا

س 143 غدیر خم کے اعلان کے بعد کونسی آیت نازل ہوئی۔

ج آیہ الیوم اکملت لکم دینکم

س 144 حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ نے کب نفس رسول قرار دیا

ج مہلبہ کے موقع پر

س 145 حضرت علیؑ اور ان کے خانوادے نے تین روز مسکین۔ یتیم اسیر کو کھانا کھلایا تو اللہ

تعالیٰ نے کیا انعام دیا۔

ج سورہ دھر کی تیس آیات نازل کیں۔

س 146 اللہ تعالیٰ نے آل رسولؐ کو کھانا کھلانے پر کیا کہا

ج اللہ تعالیٰ ان کی سعی پر مشکور ہے

س 147 اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو ڈرانے والے اور حضرت علیؑ کو ہادی قرار دیا آیت

کا ترجمہ لکھیں؟

ج تحقیق آپؐ (منذر) اور ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہوتا ہے

س 148 حضورؐ نے کس کو صراط مستقیم اور میزان قرار دیا ہے؟

ج حضرت علیؑ کو

س 149 اللہ نے کس کی مودت کو قرآن میں اجر قرار دیا ہے۔

ج آل رسولؐ کی مودت کو

س 150 اللہ تعالیٰ نے کس آیات میں اہل بیت کو پاک و طاہر قرار دیا ہے

ج تحقیق اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کو جس سے دور رکھے اور ایسا پاک و طاہر رکھے جیسا پاک و طاہر رکھنے کا حق ہے۔

س 151 نماز میں کن پر درود پڑھنا لازمی ہے۔

ج محمد و آل محمدؐ پر

س 152 آیہ درود کا ترجمہ لکھیں

ج بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

س 153 حضرت علیؑ کے بزبان رسولؐ چند القابات لکھیں۔

ج عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، اسد اللہ، امیر المومنین، قائد

الفر المحجلین، امام المتقین، افصح العرب، امام

س 154 جنت میں حوروں کے ساتھ مومنین کے نکاح کون پڑھائیں گے۔

ج حضرت علیؑ۔

س 155 امام شافعی کی رباعی بتائیں، جو انہوں نے حضرت علیؑ کی شان میں بیان کی

ج علی حبہ جنة قسم النار والجنة

وصی مصطفیٰ حق امام الانس والجنہ

س 156 یہ شعر کس کا ہے

تفصیل علیؑ ہم نے سنی اس کی زبانی

ج یہ شعر علامہ اقبال کا حضرت علیؑ کی شان میں ہے

س 157 مسلم اول شہ مرداں علیؑ عشق راہ سرمایہ ایمان علیؑ یہ شعر کس کا ہے

ج علامہ اقبال کا شعر ہے

س 158 آیہ ولایت میں اللہ تعالیٰ نے کس کس کو ولی قرار دیا ہے

ج اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:- تحقیق ایک تمہارا ولی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ

اور وہ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

س 159 حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی

ج حضرت علیؑ علیہ السلام نے

س 160 سد ابواب کے حکم آنے پر حضورؐ نے مسجد نبویؐ میں کس کس گھر کے

دروازے کھلے رکھے

ج حضورؐ نے اپنا اور حضرت علیؑ کا دروازہ کھلا رکھا

س 161 حضورؐ کے دور میں حضرت علیؑ نے کتنے معرکوں میں حصہ لیا

ج 71 معرکوں میں

س 162 حدیث مدینہ کا ترجمہ سنائیں

ج میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں

س 163 حدیث حکمت کا ترجمہ سنائیں

ج میں حکمت کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔

س 164 حضورؐ نے حدیث نور میں کیا فرمایا ہے

ج میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں

س 165 حضرت علیؑ کے مدفن کی جگہ کا کس دور میں پتہ چلا؟

ج امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں

س 166 حضرت علیؑ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں لکھتے ہیں؟

ج اس لئے کہ آپؑ نے کبھی بت پرستی نہیں کی

س 167 حدیث پاک ہے یا علی انت وشیعک ہم الفارزون۔ ترجمہ بیان کریں؟

ج اے علیؑ آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں

س 168 حضورؐ نے حضرت علیؑ کو کس کے مثل قرار دیا

ج مثل کعبہ، اور مثل قل هو اللہ فرمایا ہے

س 169 حضورؐ نے جنت کے سردار کن ہستیوں کو قرار دیا ہے

ج حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو

س 170 یہ رباعی کس کی ہے شاعر کا نام بتائیں

قرآن جس کی شان میں رطب اللسان ہے

اور مرضی خدا کے عوض جسکی جان ہے

رجہ شناسی اسکی کوئی غیر کیا کرے

وارث ہے وہ نبیؐ کا خدا کی زبان ہے

ج یہ رباعی کتاب ہذا کے مؤلف شفقت حسین نقوی کی ہے

س 171 حضورؐ نے قرآن پاک اور حضرت علیؑ میں کیا ربط باہم بیان فرمایا ہے

ج قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ قرآن کے ساتھ ہے

س 172 حضورؐ نے حق اور علیؑ میں کیا ربط باہم فرمایا ہے؟

ج حق علیؑ کے ساتھ ہے اور علیؑ حق کے ساتھ ہے۔ یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر

علیؑ پھر جائے

س 173 حضرت علیؑ کے سر پر جب ضرب لگی تو آپؑ نے کیا فرمایا؟

ج رب کعبہ کی قسم علیؑ کا میاب ہو گیا

س 174 علامہ اقبال صبح کے وقت کس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوا کرتے تھے؟

ج حضرت علیؑ کی بارگاہ میں

س 175 سپاس جناب امیرؑ کس کتاب میں ہے دو ایک اشعار لکھیں؟

ج باقیات اقبال کے صفحہ نمبر 192, 193, 194, 195 پر درج ہے

علامہ فرماتے ہیں۔

(۱) اے محو ثنائے تو زباں ہا اے یوسف کاواں جانھا

(۲) اے باب مدینہ محبت اے نوح سفینہ محبت

(۳) اے سر نبوت محمدؐ اے وصف تو مدحت محمدؐ

(۴) از ہوش شدم مگر بہوشم گوئی کہ نصیری خوشم

(۵) از جلوہ عام بے نیازم سوزم، گریم۔ تپسم۔ گدازم

اشعار کا ترجمہ:-

1- حضرت علیؑ کی مدح میں مومنین کی زبانیں محو ہیں۔

آپ حضرت یوسفؑ کی طرح گرانقدر ہیں۔

2- اے مدینہ محبت کے باب اور اے محبت کی کشتی کے نوحؑ

3- اے نبوت محمدؐ کے راز اور اے وہ جن کا وصف محمدؐ کی مدحت ہے۔

4- میں ہوش میں ہوں مگر بے ہوش ہوں کیسے کہ میں خاموش نصیری ہوں۔

5- اب علی الاعلان میرا کام اپنے معشوق خاص علی کے عشق میں جلنا۔ گریہ کرنا۔
ترپنا اور پگھلنا ہے۔

س 176 حضرت علی کے علمی کارناموں کے متعلق بتائیں؟

ج (1) صحیفہ جامعہ (2) قرآن مجید (3) مصحف فاطمہ (4) کتاب التفسیر (اس میں
ساتھ سے زیادہ موضوعات کا ذکر ہے۔ (5) کتاب الجفر (6) رسالہ اونٹ کی
زکوٰۃ پر (7) کتاب فی الدیات (8) کتاب صفات النعم (9) چار صد حکیمانہ
اقوال (10) رسالہ فی الخو (11) احتجاج علی الیہود (12) احتجاج علی
النصارى (13) نوادر احتجاجات۔

س 177 حضرت علی نے آسمانوں کے نام کیا بیان فرمائے ہیں؟

ج (1) رفیع (2) فیدوم (3) الماروم (4) ارقلون (5) صفیون
(6) عروس (7) عجا۔

س 178 حضرت علی نے امراض قلب کے لئے کیا دعا تعلیم کی ہے

ج نماز فجر اور مغرب کے اول و آخرتین بار درود پاک پڑھیں
اور درمیان میں یہ دعا پڑھیں

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَلْكَ أَنْ تَحْيِيَ قَلْبِي

س 179 حضرت علی نے حصول بہشت کیلئے کونسی دعا تعلیم فرمائی۔

ج ہر نماز کے بعد اللھم صل علی محمد و آل محمد و اجرني من

النار و اد خلني الجنة و زوجني الحور العين

س 180 حضرت علی کو خنوط کس کا فور سے کیا گیا۔

ج جو کا فور حضرت جبرائیل حضور کے پاس لائے تھے آپ نے اس سے ایک حصہ

حضرت علی کو دیا تھا۔

س 181 حضرت علی کے چند اقوال بتائیں

ج (1) ہر شخص کی قدر و قیمت ان نیکیوں سے وابستہ ہے جسکو وہ انجام دیتا ہے

(2) جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے امید سے نہیں

(3) تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے

(4) درس عبرت تو بہت ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم

س 182 حضرت علی نے خدا کے دیدار کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

ج میں نے جس کو نہ دیکھا ہو اس کی عبادت نہیں کی ہے۔ آنکھیں تو اسے نہیں دیکھ
سکتیں۔ لیکن دل اسے دیکھ سکتے ہیں۔

(۴) حضرت امام حسن علیہ السلام

- 1 س امام حسن علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟
ج 3ھ پندرہ رمضان المبارک کو پیدا ہوئے
2 س امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے کتنے روز بعد عقیقہ کیا گیا؟
ج چھ روز بعد
3 س امام حسن علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟
ج ابو محمد کنیت تھی
4 س امام حسنؑ کے مشہور القاب بیان کریں؟
ج طیب، سبط، سید زیادہ مشہور ہیں
5 س شہید ثالث قاضی نور اللہ شوہتری نے کس امام کے متعلق فرمایا کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں؟
ج امام حسنؑ کے متعلق
6 س امام حسنؑ کس کے مشابہ تھے؟
ج حضورؐ کے مشابہ تھے
7 س امام حسنؑ نے کل کتنی شادیاں کیں؟
ج نو شادیاں کیں۔
8 س امام حسنؑ کے والدین گرامی کے کیا اسماء مبارک تھے؟
ج حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ
9 س امام حسن علیہ السلام کے نانا جان اور نانی جان کون تھے؟

- ج حضرت محمد مصطفیٰؐ اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ
10 س امام حسن کی کل کتنی اولادیں تھیں؟
ج 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں
11 س امام حسن علیہ السلام کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟
ج 3 بیٹے
12 س امام حسن علیہ السلام کا کونسا بیٹا کربلا میں زخمی ہوا؟
ج حضرت حسن ثقیؑ
13 س حضرت حسن ثقیؑ کی شادی کن سے ہوئی؟
ج فاطمہ بنت حسینؑ سے
14 س حضورؐ نے کس نواسے سے کہا صدقہ ہم پر حرام ہے؟
ج امام حسنؑ سے
15 س امام حسن علیہ السلام کا عبرانی نام کیا تھا؟
ج شبر۔
16 س امام حسنؑ کے کانوں میں اذان و اقامت کس نے کہی؟
ج حضورؐ نے
17 س امام حسنؑ کا نام کس نے رکھا؟
ج حضورؐ نے
18 س امام حسن علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟
ج نرم دل، حلیم الطبع، نیک خو، پرہیزگار، باوقار، اور حامل خلق عظیم کے نواسے تھے
19 س امام حسنؑ کی سخاوت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج ایک شخص دعا میں اللہ تعالیٰ سے دس ہزار مانگ رہا تھا، امام حسنؑ گھر آئے اور اسے دس ہزار دیئے

س 20 امام حسنؑ کی تربیت کن نفوس قدسیہ نے کی؟

ج حضورؑ نے، حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ نے

س 21 حضورؑ حسنینؑ سے محبت کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟

ج جو مجھ سے محبت کرے اس پر لازم ہے کہ ان دونوں (حسینؑ) سے محبت کرے

س 22 حضرت امام حسنؑ کی بیعت کب ہوئی؟

ج 40ھ میں

س 23 آپ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟

ج ایک برس

س 24 امام حسنؑ نے کن سات جاندار کا ذکر کیا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے

ج آدمؑ، حواؑ، دبیہ ابراہیمؑ، ناقصہ صالحؑ، اژدہائے موسیٰؑ، زارع قابیلؑ

س 25 حضرت علیؑ کے دور میں امام حسن علیہ السلام کن جنگوں میں علمدار لشکر رہے؟

ج جمل اور صفین میں

س 26 کتنے لوگوں نے امام حسنؑ کی بیعت کی؟

ج چالیس ہزار نے

س 27 امام حسنؑ نے امیر شام سے کب صلح کی؟

ج ربیع الاول یا جمادی الاول 41ھ میں

س 28 امام حسنؑ کو ان کی کس بیوی نے زہر دیا؟

ج جعدہ بنت اشعث نے

س 29 امام حسنؑ کے تابوت پر کتنے تیر پیوست ہوئے؟

ج 70 تیر پیوست ہوئے

س 30 امام حسنؑ کا مرتبہ حضورؑ نے کیا بیان کیا؟

ج جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا

س 31 حضورؑ نے کن بچوں کو اپنی خوشبوئیں کہا؟

ج امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو

س 32 جعدہ بنت اشعث قاتلہ امام کا کیا انجام ہوا؟

ج امیر شام نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے نیل میں گرا دیا

س 33 جعدہ بنت اشعث کو دریا میں گراتے وقت امیر شام نے کیا کہا؟

ج تو نے حسنؑ سے وفائیں کی بیزید سے کیا وفا کرے گی

س 34 امام حسنؑ کی وفات کب ہوئی؟

ج 49ھ 28 صفر کو

س 35 امام حسنؑ کہاں دفن کیے گئے؟

ج جنت البقیع میں

س 36 مرض الموت میں امام حسنؑ نے امام حسینؑ سے کیا کہا؟

ج مجھے تین بار زہر دیا گیا۔ مگر اس مرتبہ سخت ہے

س 37 امام حسنؑ کی وفات پر کتنے دن بنو ہاشم کی عورتوں نے نوحہ خوانی کی؟

ج ایک ماہ تک

س 38 امام حسنؑ کی وفات پر مردوں نے کتنا عرصہ ماتمی لباس پہنا؟

ج ایک سال تک

(۵) حضرت امام حسین علیہ السلام

- س 1 حضرت امام حسین کی ولادت کب ہوئی؟
ج 3 شعبان 6۰ھ مدینہ منورہ میں۔
- س 2 حضرت امام حسین کی پہلی غذا کیا تھی؟
ج حضور نے اپنی زبان دیر تک چسائی
- س 3 حضرت امام حسین کی کنیت کیا تھی؟
ج ابو عبد اللہ
- س 4 حضرت امام حسین کے القاب کیا تھے؟
ج سید، سبط، اصغر، شہید اکبر، اور سید الشہداء
- س 5 حضرت امام حسین کی ولادت پر کس ملک مقرب نے مبارک باد دی؟
ج حضرت جبرائیل امین نے
- س 6 کس فرشتے کو حضرت امام حسین نے شفاء بخشی؟
ج فطرس کو
- س 7 حضور نے کس بیٹے کو حسین پر قربان کیا؟
ج حضرت ابراہیم کو
- س 8 حضرت امام حسین نے کس تاریخ کو مدینے سے ہجرت کی؟
ج 28 رجب المرجب 60ھ کو
- س 9 حضرت امام حسین کس تاریخ کو مکہ پہنچے؟
ج 3 شعبان 60ھ کو

- س 39 حضرت امام حسن نے سخاوت کے متعلق کیا بیان فرمایا؟
ج تنگی اور آسانی میں خرچ کرنا
- س 40 امام حسن نے کمینگی کے بارے میں کیا کہا؟
ج آدمی کا مال کو بچانا اور عزت کو خرچ کرنا
- س 41 امام حسن نے بزدلی کی کیا تعریف کی؟
ج جو دوست کے سامنے اکڑے اور دشمن کے سامنے سرنگوں ہو
- س 42 امام حسن نے غنا کی کیا تعریف کی؟
ج اللہ کے دیئے ہوئے پر نفس کو راضا مندر رکھنا
- س 43 امام حسن حلم کی کیا تعریف کی؟
ج غصہ پی جانا، اور نفس کو قابو رکھنا
- س 44 آیہ مابلہ میں انبیاء کا مصداق کون ٹھہرے؟
ج امام حسن اور امام حسین
- س 45 چادر تطہیر کی زینت کون بنے؟
ج حضور، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، حضرت امام حسین، اور جبرائیل
- س 46 آسیہ مودت میں کیا امام حسن شامل ہیں؟
ج جی ہاں آپ حضور کے قربی - عترت - آل - اہل بیت ہیں

س 10 حضرت امام حسین کب مکہ سے روانہ ہوئے؟

ج 8 ذی الحجہ 60ھ کو

س 11 سب سے پہلے کس جرنیل نے امام حسینؑ کو راستے میں روکا؟

ج حبن یزید ریاحی نے

س 12 مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے حضرت امام حسینؑ کو راستے میں کون ملا؟

ج فرزدق شاعر

س 13 فرزدق نے کوفہ والوں کے متعلق کیا کہا؟

ج کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں

س 14 حضرت امام حسینؑ کربلا میں کب وارد ہوئے؟

ج 2 محرم الحرام 61ھ کو

س 15 کس تاریخ کو حضرت امام حسینؑ پر پانی بند کیا گیا؟

ج 7 محرم الحرام کو

س 16 10 محرم الحرام 61ھ کو کیا دن تھا؟

ج یوم جمعہ

س 17 جنگ ملعویہ سے کیا مراد ہے؟

ج یزید کے لشکر نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت امام حسینؑ کے 50 مجاہد شہید ہوئے اسے

جنگ ملعویہ کہتے ہیں۔

س 18 نماز ظہر کا ذکر حضرت امام حسینؑ سے کس نے کیا؟

ج ابو ثمامہ صائدی نے

س 19 حضرت امام حسینؑ کے بوڑھے صحابی کا نام بتائیں؟

ج حبیب ابن مظاہرؓ

س 20 حضرت امام حسینؑ کے سب سے چھوٹے شہید کا نام بتائیں؟

ج حضرت امام حسینؑ کے بیٹے علی اصغرؑ

س 21 حضرت امام حسینؑ کے کس بیٹے کی شکل حضورؐ سے ملتی تھی؟

ج حضرت علی اکبرؑ کی

س 22 کربلا میں حضرت علی اکبرؑ اور عباسؑ کی کیا عمریں تھیں؟

ج 18 سال، 34 سال

س 23 حضرت عباسؑ کے کتنے بھائی شہید ہوئے؟

ج تین بھائی

س 24 حضرت علی اکبرؑ کو کس نے شہید کیا؟

ج حصین بن نمیر نے

س 25 حضرت عباسؑ کی شہادت پر حضرت امام حسینؑ نے کیا کہا تھا؟

ج ہائے میری کمر ٹوٹ گئی

س 26 حضرت امام حسینؑ نے جنگ کے لئے جاتے ہوئے کیا لباس پہنا؟

ج امام حسینؑ نے پرانا لباس پہنا

س 27 حضرت امام حسینؑ کو کس کے حکم پر شہید کیا گیا؟

ج یزید کے

س 28 حضرت امام حسینؑ کا سر کس ملعون نے قلم کیا؟

ج شمر ذی الجوشن نے

س 29 شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کا حکم کس نے دیا؟

- ج عمر بن سعد نے
س 30 کربلا میں کتنے بنو ہاشم شہید ہوئے؟
ج اٹھارہ (18)
س 31 اسیران کربلا کوفہ میں کتنے روز رکھے گئے؟
ج آٹھ روز
س 32 شام میں اسیران کربلا کتنا عرصہ قید رہے؟
ج ایک برس تک
س 33 اسیران کربلا رہائی کے بعد کربلا کب آئے؟
ج 20 صفر 62ھ کو
س 34 اسیران کربلا رہائی کے بعد مدینہ کب آئے؟
ج آٹھ ربیع الاول 62ھ کو
س 35 قبر حسینؑ پر پہلی عمارت کس نے بنائی؟
ج مختار ثقفیؒ نے
س 36 قبر حسینؑ پر پہلی عمارت کس سال بنی؟
ج 65ھ کو
س 37 مختار کے حکم سے کس نے عمارت قبر حسینؑ پر بنوائی؟
ج محمد بن ابراہیم اشترؒ نے
س 38 قاتلان حضرت امام حسینؑ سے کس نے بدلہ لیا؟
ج مختار ثقفیؒ نے
س 39 یزید نے اپنے دور حکومت میں مکہ اور مدینہ میں کیا کیا؟

- ج دونوں شہروں میں ظلم کیا
س 40 حضرت امام حسینؑ کا سر کہاں دفن ہے؟
ج کربلا میں
س 41 مختارؒ کو حرملہ کی گرفتاری کی خبر کہاں ملی؟
ج مقام کناسہ پر
س 42 مختارؒ نے اسے کیا سزا دی؟
ج پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے پھر آگ میں جلا دیا
س 43 عبید اللہ بن زیاد کو کس نے شکست دی؟
ج ابراہیمؒ بن مالک اشترؒ نے
س 44 ابن زیاد کو کس نے قتل کیا؟
ج مختار ثقفیؒ نے
س 45 مختارؒ نے اشقائے کربلا کے سر کس کے پاس بھیجے؟
ج مختارؒ نے حضرت محمد حنیفہؒ کے پاس بھیجے
س 46 سانپ کس یزیدی کی ناک و کان سے گزرا؟
ج ابن زیاد کی ناک و کان سے گزرا
س 47 عمر بن سعد کو کس شہر میں مختارؒ نے قتل کروایا؟
ج کوفہ میں
س 48 خولیٰ کو کہاں قتل کروایا؟
ج کوفہ میں اور لاش چلائی گئی
س 49 شمر ذی کو مختارؒ کے حکم سے کس نے گرفتار کیا؟

ج ابو عمرؓ نے

س 50 مختارؓ نے شمر سے کیا سلوک کیا؟

ج مختارؓ نے اسے قتل کر کے کھولتے تیل میں ڈال دیا

س 51 امام علیؓ زین العابدینؓ کے پاس جب عمر سعدؓ کا سر لایا گیا تو آپؓ نے کیا فرمایا؟

ج شکر ہے اس خدا کا جس نے میرے دشمنوں سے انتقام لیا۔ خدا مختارؓ کو جزائے خیر دے۔

س 52 اشتیاء فرات کس کی تالیف ہے؟

ج سید فیض الحسن موسوی انبالوی کی

س 53 اشتیاء فرات کتاب میں تقریباً کتنے قاتلین حسینؓ کا تذکرہ ہے؟

ج تقریباً 250 قاتلان حسینؓ کا ذکر ہے

س 54 تواین کی قیادت کس نے کی؟

ج سلیمان بن صردؓ نے کی

س 55 تواین کیا آواز بلند کیا کرتے تھے؟

ج یا ثارات الحسینؓ، یعنی حسینؓ کا انتقام لینے والو دوڑو

س 56 تواین نے کب کاروئی کی؟

ج 65ھ میں

س 57 سلیمان بن صردؓ اور ان کے رفقاء کا کیا انجام ہوا؟

ج تقریباً سبھی شہید ہوئے۔ آخری جنگ عین الوردہ قرار دی جاسکتی ہے

س 58 ائشیؓ ہمدانیؓ نے تواین کے حق میں قصیدہ لکھا ان کے کسی شعر کا ترجمہ بتائیے؟

ج یہ لوگ یوں ہی نہیں قتل ہوئے یہ ایک ایسی جماعت کو برا لکھتے کر گئے ہیں جو

آفتاب کی حدت و نور کی سی تجلی رکھتی ہے۔

س 59 چند تواین کے نام بتائیں؟

ج سلیمان بن صردؓ، مسیبؓ عبد اللہ بن عوفؓ، ابو عزمہؓ، عبیدہ مرنیؓ۔

س 60 حضرت زینبؓ بنت علیؓ کی شادی کس سے ہوئی؟

ج حضرت عبد اللہؓ بن جعفر طیارؓ انکے شوہر تھے

س 61 حضرت ام کلثومؓ بنت علیؓ کے شوہر کا نام بتائیں؟

ج محمد بن جعفر طیارؓ

س 62 حضرت زینبؓ کے کتنے بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے؟

ج دو بیٹے عون و محمد شہید ہوئے

س 63 حضرت علیؓ کے کتنے بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے؟

ج چھ بیٹے علیؓ کے شہید ہوئے

س 64 علیؓ کی دو بیٹیوں زینبؓ و ام کلثومؓ کے مدفن کہاں ہیں؟

ج دونوں شام میں دفن ہیں

س 65 حضرت علیؓ کے چھ بیٹے جو کر بلا میں شہید ہوئے ان کے اسماء گرامی لکھیں؟

ج حضرت امام حسینؓ، حضرت عباسؓ، عثمانؓ، جعفرؓ، عبد اللہؓ، عبد اللہ اصغرؓ

س 66 حضرت امام حسنؓ کے کتنے بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے؟

ج ابو بکرؓ، قاسمؓ اور عبد اللہؓ

س 67 حضرت عقیلؓ کے کتنے بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے؟

ج مسلمؓ، عبد الرحمنؓ، جعفرؓ

س 68 حضرت امام حسینؓ کے کتنے بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے؟

(۶) امام علی زین العابدین علیہ السلام

- س 1 امام علی زین العابدین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ج 15 جمادی اول ۳۸ ھ یوم جمعہ مدینے میں پیدا ہوئے۔
- س 2 امام چہارم کے والدین کے اسمائے گرامی بتائیں؟ ج حضرت امام حسین والد ماجد اور حضرت شہر باؤ دختر یزدجرد والدہ ماجدہ تھیں۔
- س 3 حضرت شہر باؤ کب مدینے میں آئیں؟ ج حضرت علی کے گورنر خراسان حریت ابن جابر، دولڑکیاں شہر بانو اور گہبان بانو کو لائے یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت علی نے ان کی شادیاں بالترتیب امام حسین اور محمد بن ابی بکر سے کر دیں۔
- س 4 امام چہارم کی وضو کرتے وقت کیا حالت ہو جاتی تھی؟ ج آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔
- س 5 امام چہارم رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ ج ایک ہزار رکعتیں۔
- س 6 واقعہ کربلا میں امام چہارم کی کتنی عمر تھی؟ ج 22 برس
- س 7 شب عاشورا امام حسین نے جب اپنے جانثاروں سے خطاب کیا تو امام چہارم کہاں تھے؟ ج امام چہارم ان میں موجود تھے اور شب عاشور کے واقعات انہوں نے بیان کئے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔

- ج دو بیٹے علی اکبر، علی اصغر
- س 69 حضرت مسلم کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ ج دو بیٹے عبداللہ، محمد
- س 70 کتنے شہداء کی مائیں کربلا میں موجود تھیں؟ ج نو شہداء کی مائیں موجود تھیں
- س 71 کتنے نابالغ بچے کربلا میں شہید ہوئے؟ ج پانچ صاحبزادے۔ علی اصغر، عبداللہ بن حسن، محمد بن ابی سعید، قاسم، عمرو بن جنادہ
- س 72 کتنے شہداء کے سر کاٹ کر امام حسین کی طرف پھینکے گئے؟ ج تین شہداء، عبداللہ بن عمر، عمر بن جنادہ، عابش شاکری
- س 73 کتنی عورتیں کربلا میں لڑنے کیلئے نکلیں؟ ج دو عورتیں، عبداللہ بن عمر کی والدہ، عمر بن جنادہ کی والدہ
- س 74 حضرت مسلم بن عقیل کے کتنے صاحبزادے کوفہ میں شہید ہوئے؟ ج محمد، ابراہیم
- س 75 کربلا میں دیگر کتنے شہداء ہیں؟ ج تقریباً 96 دیگر شہدائے کربلا ہیں۔

- 8 س امام حسینؑ کی شہادت کے بعد شمر ملعون نے کیا ظلم کرنا چاہا؟
ج شمر نے امام علیؑ زین العابدینؑ کو بھی قتل کرنا چاہا۔ لیکن حمید بن مسلم نے اسے روک دیا۔
- 9 س امام چہارمؑ کو شہادت امام حسینؑ کے بعد کتنے دن کر بلا میں رکھا گیا۔
ج دور و نزدیک پھر انہیں کوفہ لیجا یا گیا۔
- 10 س امام علیؑ زین العابدینؑ کو کس حالت میں شام روانہ کیا گیا؟
ج زنجیروں میں جکڑ کر گلے میں طوق ڈال کر روانہ کیا گیا۔
- 11 س امام علیؑ زین العابدینؑ نے یزید سے کیا مطالبات کئے؟
(۱) میرے باپ اور اعزا کے سر مجھے دیئے جائیں تاکہ انہیں بدن سے ملتی کر کے دفن کیا جائے۔
(۲) مجھے معذرت نامہ دینے جانے دے۔
(۳) روز جمعہ مجھے منبر پر خدا اور رسولؐ کی مدح کرنے کا موقعہ دیا جائے۔
- 12 س یزید نے ان مطالبات پر کس رد عمل کا اظہار کیا؟
ج یزید نے مطالبات منظور کر لیے
- 13 س امام چہارمؑ نے روز جمعہ کیسا خطبہ دیا اور سامعین پر کیا اثر ہوا؟
ج امام نے حمد و نعت پند و نصائح اور بھرپور اپنا تعارف پیش کیا۔ سامعین پر رقت طاری ہو گئی اور یزید نے خائف ہو کر اذان دلوادی۔ جب موزن اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو امام نے روکا سر سے عمامہ اتارا اور یزید سے پوچھا یہ محمد رسول میرے جد ہیں یا تیرے؟ ایسے کئی سوال کئے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔
- 14 س امام علیؑ زین العابدینؑ نے مدینے میں پہنچکر روضہ میں کیسے جذبات کا اظہار کیا؟

- ج چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم تھا۔ اے میرے جد میں فریاد لایا ہوں حسینؑ کو قتل کیا گیا۔ آپ کی نسل ضائع کی گئی۔ میں غمزدہ ہوں بیمار اور اسیر ہوں۔ میرا کوئی حامی و ناصر نہیں۔
- 15 س حضرت امام علیؑ زین العابدینؑ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟
ج خوفِ خدا سے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا؟
- 16 س زہری نے امام چہارمؑ کے متعلق کیسے خیالات کا اظہار کیا ہے؟
ج امام سے بڑھ کر عالم دین کوئی نہیں تھا۔ آپ پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے تھے۔
- 17 س امام چہارمؑ کی غریب پروری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
ج آپ حاجتمندوں کو رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے۔
- 18 س امام محمد باقرؑ نے اپنے والد محترم کی اذان کے متعلق کیا فرمایا ہے؟
ج امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ آپ حی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی کہتے تھے۔
- 19 س مسلم بن عقبہؓ جس نے مدینہ کو تباہ کیا امام علیؑ زین العابدینؑ کو دیکھ کر تعظیم کیوں کرنے لگا؟
ج اس نے کہا میرے دل پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ اس لئے مجھے مجبوراً ان کی تعظیم کرنا پڑی
- 20 س امام چہارمؑ نے عمرو بن منہال کے سامنے حرملہ بن کاہل اسدی کیلئے کیا بدعا کی؟
ج یا اللہ حرملہ کو گرمی تیغ کا مزا چکھا۔ اسے آتش جہنم کا مزا چکھا
- 21 س جب مختار ثقفی نے حرملہ کو قتل کر کے آگ میں جلایا اور منہال نے امام کی بددعا کا

ذکر کیا تو مختار نے کیا کہا؟

- ج مختار نے گھوڑے سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر ادا کیا۔
- س 22 عامل مدینہ نے عبدالملک کے حکم سے امام کو دوبارہ طوق و زنجیر پہنا کر قید کیا آپ کیسے رہا ہوئے؟
- ج آپ معجزہ رہا ہوئے اور عبدالملک سے آکر کہا تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو عبدالملک پر آپ کی بیعت چھا گئی وہ آپ سے کچھ نہ کہہ سکا۔
- س 23 ہشام کی موجودگی میں امام چہارم جب حجر اسود کو بوسہ دینے آئے تو کیا صورت حال بنی؟
- ج لوگوں نے احقر امارتہ دیا امام نے بوسہ دیا ہشام نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا اور فرزدق نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔
- س 24 فرزدق پر قصیدہ سنانے کی یاداش میں کیا گزاری؟
- ج ہشام نے انہیں بمقام عسکان میں قید کر دیا۔
- س 25 امام علی زین العابدین کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟
- ج آپ 25 محرم ۹۵ھ میں مدینہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔
- س 26 آپ کی وفات کیسے ہوئی؟
- ج امام چہارم کو ولید بن عبدالملک نے زہر سے شہید کیا۔
- س 27 واقعہ حرہ کب ہوا امام چہارم اس وقت کہاں تھے؟
- ج ۶۳ھ میں واقعہ حرا ہوا اور امام مدینے کے پاس ایک قرینہ منع میں تھے۔
- س 28 امام چہارم کی دعاؤں کے مجموعے کا کیا نام ہے اور اس میں کتنی دعائیں ہیں؟

- ج صحیفہ کاملہ اس میں 54 دعائیں ہیں۔
- س 29 حضرت امام علی زین العابدین کی کتنی اولادیں تھیں؟
- ج آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔
- س 30 امام چہارم کی کس زوجہ کے بطن سے امام محمد باقر پیدا ہوئے؟
- ج فاطمہ بنت امام حسن کے بطن سے امام پنجم پیدا ہوئے؟
- س 31 امام علی زین العابدین کے چند اقوال بتائیں؟
- ج (۱) لوگوں سے بہت کم ضرورتوں کو طلب کرنا مالدار ہے
- (۲) صالح افراد کے پاس بیٹھا شائستگی کی دعوت دیتی ہے
- (۳) خبردار بدکردار کی صحبت میں نہ رہنا کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے کم پر بچ دیا
- (۴) برادر مومن کا برادر مومن کے چہرے کی طرف نظر کرنا اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے
- (۵) اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ طلب علم میں کیا فوائد ہیں تو خون بہا اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کریں۔
- س 32 امام چہارم نے حضور کے متعلق نعت لکھی چند اشعار کا مطلب بیان کریں؟
- ج (۱) ترجمہ شعر: اے بادشاہ اگر تیرا گزر زمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روضہ کو پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہیں
- (۲) ترجمہ شعر: وہ جن کا چہرہ انور مہر نیم روز ہے اور جن کے رخسار تاباں ماہ کامل جن کی ذات نور ہدایت ہے جن کی تہلی سخاوت میں دریا
- (۳) ترجمہ شعر: اے رحمت عالم ازین العابدین کو سنبھالئے وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار حیرانی اور پریشانی میں ہے۔

(۷) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

- 1 س امام محمد باقر علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
ج امام کیم رجب ۵۵ھ مدینہ میں پیدا ہوئے
- 2 س امام پنجم کی کتنی عمر ہوئی؟
ج آپ کی عمر 57 برس ہوئی۔ چار برس امام حسین 35 برس امام علی زین العابدین بقایا 18 برس اپنی مدت امامت میں گزاری
- 3 س آپ کے والدین کون تھے؟
ج والد گرامی حضرت امام علی زین العابدین تھے اور والدہ ماجدہ فاطمہ بنت امام حسن تھیں۔
- 4 س دیوار گرنے کا واقعہ کیا ہے؟
ج امام پنجم راوی ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنے اوپر گری ہوئی دیوار کو حق مصطفیٰ کا واسطہ دیکر گرنے سے روک دیا۔
- 5 س امام محمد باقر کے القاب بیان کریں؟
ج باقر، ہادی، امین، شاکر، شبیہ (اس لئے کہتے ہیں کہ آپ حضور کے مشابہ تھے)
- 6 س امام پنجم کا لقب باقر کیوں تھا؟
ج آپ نے علم کو شکافتہ کیا اس لیے باقر کہلائے۔
- 7 س جابر بن عبد اللہ کو حضور نے کیا پیغام دیا؟
ج فرمایا تم زندہ رہو گے حتیٰ کہ میرے لڑکے حسین کی اولاد میں سے ایک کو ملو گے جس کا نام باقر ہے۔

- 8 س آپ کے اخلاق، عبادت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
ج آپ کا حکم، عبادت، کثرت ذکر اللہ اور تسلیم لامر اللہ مثالی تھے۔ جو کثرت خیرات آپ کا شعار تھا۔
- 9 س آپ کا ایک بچہ بیمار ہو کر فوت ہوا آپ اس دوران کیسے رہے؟
ج جب تک بچہ بیمار رہا آپ بے چین رہے جب فوت ہو گیا۔ تو آپ کے چہرے پر آثار غم نہ تھے۔ فرمایا جب خدا کا حکم آ جاتا ہے پھر ہماری خوشی اس میں ہوتی ہے جس میں خدا کی رضا۔
- 10 س امام محمد باقر نے کتنی شادیاں کیں اور کتنی اولادیں تھیں؟
ج آپ نے چار شادیاں کیں آپ کی سات اولادیں تھیں۔ 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں
- 11 س امام پنجم کی بیویوں کے نام بتائیں؟
ج ام فردہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ام حکیم بن اسد علاوہ ازیں دو کنزین تھیں
- 12 س جمعہ کے روز صدقہ دینے کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟
ج امام ہر جمعہ کو صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ثواب دو گنا ہوتا ہے۔
- 13 س امام علی زین العابدین نے وقت آخر امام پنجم کو کیا دیا؟
ج امام چہارم نے وصیت کی اور ایک صندوق برکات کا امام پنجم کو دیا۔ جس میں حضور کا اسلحہ تبرکات اور چند صحیفے تھے۔
- 14 س امام محمد باقر کے چند مشہور اصحاب کے نام لکھیں؟
ج حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری، ابو حمزہ ثمالی، ابو بصیر ٹیٹ، ابو بصیر ثعلبی، ابو بصیر بن محمد بن مسلم
- 15 س کربلا میں امام محمد باقر کی کتنی عمر تھی؟

ج 4 برس تھی

س 16 امام پنجمؑ نے اپنی زندگی کن امور کے انجام دینے میں صرف کی؟

ج عوام الناس کو درس و تعلیم دینا۔ سبھی لوگ آپ کے درس میں شامل ہوئے۔ جیسے زہری۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری اور امام ابوحنیفہؒ

س 17 مقام حرہ پر جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟

ج مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو قتل کیا۔ عبداللہ جعفر بن محمد علی ابی طالب اور ایسے ہی دیگر نوے سے زیادہ بنو ہاشم قتل ہوئے۔ قریش۔ مہاجر، انصار قتل ہوئے۔ سات سوا شراف مدینہ اور 10 ہزار سے زائد عوام الناس قتل ہوئے۔ مسلم بن عقبہ کے ظلم کی بنا پر ایک ہزار تاجائز بچے پیدا ہوئے۔ امام علی زین العابدینؑ واقعہ حرہ میں شامل نہیں ہوئے۔ بقیہ السیف نے یزید کی بیعت کر لی۔

س 18 عمر بن عبدالعزیز نے فدک کس کو واپس کیا؟

ج امام محمد باقرؑ کو

س 19 ہشام نے امام پنجمؑ سے پوچھا حساب کتاب کے دوران روز حشر لوگ کیا کھائیں گے؟

ج آپ نے فرمایا لوگوں کا حساب ایسے قطعہ پر ہوگا جہاں نہریں جاری ہوئیں لوگ وہاں کھائیں گے بیٹیں گے۔

س 20 ہشام نے امام محمد باقرؑ سے تیر اندازی کا کہا تو آپ نے کیا مظاہرہ کیا؟

ج آپ نے نو تیر چلائے ہر تیر پہلے تیر کے پیکان میں بیوست ہوتا گیا۔

س 21 نصرانی عالم نے امام پنجمؑ سے پوچھا وہ کونسا وقت ہے جو دن رات میں شامل نہیں؟

ج امام نے فرمایا مابین صبح تا طلوع آفتاب

س 22 نصرانی نے سوال کیا جنت کا میوہ کھانے سے کم نہیں ہوتا دنیا میں اسکی مثال دیں؟

ج امام پنجمؑ نے فرمایا چراغ سے چراغ کا جلنا

س 23 محمد ابن مکندر نے امام پنجمؑ کو طلب رزق میں محنت کرنے پر اعتراض کیا اور کہا

اگر اس حال میں موت آجائے تو؟

ج آپ نے فرمایا طلب رزق کرتے ہیں خدا کی عبادت کر رہا ہوں اپنے نفس کو دوسروں پر نہیں ڈال رہا۔

س 24 طاؤس یرمائی نے امام پنجمؑ سے پوچھا دنیا کی چوتھائی آبادی کب فوت ہوئی تھی؟

ج امام نے فرمایا جب دنیا میں آدم حوا، ہاتل اور قاتیل تھے۔ قاتیل نے ہاتل کو قتل کر دیا۔

س 25 طاؤس نے امام محمد باقرؑ سے پوچھا حساب سے پہلا جھوٹ کون سا تھا۔

ج امام نے فرمایا جب شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں

س 26 طاؤس نے پوچھا وہ کون تھے جنہوں نے گواہی تو تجھی دی لیکن پھر بھی گواہی دیتے

وقت جھوٹے تھے؟

ج آپ نے فرمایا وہ منافق تھے جن کا ذکر سورہ منافقون میں آیا ہے جو گواہی دیتے

ہیں کہ آپ رسولؐ ہیں خدا کہتا ہے واقعی آپ رسولؐ ہیں لیکن منافق جھوٹے ہیں

س 27 طاؤس نے امامؑ سے پوچھا وہ کونسی صلوٰۃ ہے جو بغیر وضو فرض ہے۔

ج امام پنجمؑ نے فرمایا وہ صلوٰۃ علی النبی وآلہ ہے۔

س 28 طاؤس نے امام پنجمؑ سے پوچھا وہ کونسی چیز ہے جو بڑھتی اور گھٹتی ہے وہ کونسی چیز

ہے جو بڑھتی ہے لیکن گھٹتی نہیں کونسی چیز ہے جو گھٹتی ہے لیکن بڑھتی نہیں؟

- ج امام پنجمؑ نے فرمایا پہلی چیز چاند ہے۔ دوسری چیز سمندر ہے، تیسری چیز عمر ہے
- س 29 ایک جماعت نے امام محمد باقرؑ سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟
- ج آپ نے فرمایا۔ شراب پینا، شرابی سے ہر طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں
- س 30 امام پنجمؑ نے عقل کے متعلق کیا فرمایا؟
- ج اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا میں نے کوئی شے پیدا نہیں کی جو عقل سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو میں عقل کو انبیاء، اولیاء اور ان کے مثل لوگوں میں کامل کرتا ہوں۔
- س 31 امام محمد باقرؑ نے امت وسط اور شہید کسے قرار دیا ہے؟
- ج امامؑ نے فرمایا وہ امت وسط اور شہید ہم ہیں
- س 32 امام پنجمؑ نے صادقین کن کو قرار دیا ہے؟
- ج فرمایا وہ صادقین ہم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا حکم خدا نے دیا ہے۔
- س 33 امام پنجمؑ نے نعمت ظاہرہ اور باطنہ کن کو قرار دیا؟
- ج آپ نے فرمایا نعمت ظاہرہ رسول خدا ہیں اور نعمت باطنہ سے ہماری ولایت مراد ہے۔
- س 34 امام پنجمؑ نے محسور اور جب اللہ کن کو قرار دیا ہے؟
- ج امامؑ نے محسور اور جب اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ ہم ہیں
- س 35 ابو حمزہ ثمالی نے اعلیٰ علیین کے متعلق کیا روایت بیان کی؟
- ج امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ علیین سے پیدا کیا۔
- س 36 امام محمد باقرؑ نے نماز زکوٰۃ روزہ جہاد صدقہ خیرات کے متعلق کیا فرمایا؟
- ج امام نے فرمایا نماز اسلام کی جڑ ہے زکوٰۃ شاخ ہے جہاد اس کا مقام الفت ہے روزہ سپر۔ شش جہنم سے صدقہ خیرات سے خطائیں دور ہوتی ہیں قیام شب

خدا کو یاد دلاتا ہے۔

- س 37 امام محمد باقرؑ نے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنے کے متعلق کیا فرمایا؟
- ج فرمایا اللہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی خیر نہیں پاتا لیکن اس خوش گمانی کی وجہ سے جو اس کو خدا تعالیٰ سے ہے خدا سے حسن ظن، رحمت کی امید، لوگوں سے حسن خلق، غیبت سے اجتناب یہ کامیابی کے گر ہیں۔
- س 38 امام محمد باقرؑ نے شیعوں کی کیا علامتیں بیان کی ہیں؟
- ج تواضع، انکساری، خشوع، ترک خیانت، کثرت ذکر اللہ، صوم، صلوة، والدین سے حسن سلوک، فقراء مساکین مقروض اور یتامی سے نیکی، راست بازی، تلاوت قرآن غیبت سے اجتناب۔
- س 39 امام پنجمؑ نے حیا اور ایمان کے متعلق کیا فرمایا؟
- ج حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔
- س 40 امام پنجمؑ کی حکیمانہ بات بیان کریں؟
- ج خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ یعنی رضا کو عبادت میں، ناراضگی کو اپنی معصیت میں، اور اپنے دوستوں کو مخلوق میں بس مخلوق خدا میں کسی کو حقیر نہ جانو شاید وہی خدا کا دوست ہو۔
- س 41 امام محمد باقرؑ کی تالیفات کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔
- ج امامؑ کی تالیفات کا ذکر کتابوں میں موجود ہے (۱) کتاب التفسیر (۲) رسالہ جو آپ نے سعد الخیر کو لکھا (۳) دوسرا رسالہ جو آپ نے سعد الخیر کو لکھا۔
- س 42 وفات کے روز امام محمد باقرؑ کو کس نے بلایا؟

(۸) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

- 1 س ج چھٹے امام کا اسم گرامی کیا ہے؟
 امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں۔
- 2 س ج آپ کے والدین کے اسمائے مبارکہ بتائیں
 والد امام محمد باقر علیہ السلام والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر
- 3 س ج چھٹے امام کی کنیت کیا ہے؟
 ابو عبد اللہ
- 4 س ج چھٹے امام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
 17 ربیع الاول ۸۳ھ کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔
- 5 س ج جعفر کے کیا معنی ہیں؟
 جنت کی ایک نہر کا نام ہے چونکہ نہر سے فیض عام ہوتا ہے۔ اسی طرح امام کے علم و فضل سے فیضان عام تھا۔
- 6 س ج امام ابو حنیفہؒ کو کس کس امام کی شاگردی کا شرف حاصل ہے؟
 امام محمد باقرؒ اور امام جعفر صادقؒ
- 7 س ج امام جعفر صادقؒ کے القاب بتائیں؟
 صادق۔ صابر۔ فاضل، طاہر
- 8 س ج امام جعفر صادقؒ کی ازدواج اور اولاد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
 آپ کی دو بیویاں اور تین کنیریں تھیں۔ سات لڑکے اور تین لڑکیاں آپ کی اولاد تھی۔

- ج آپ نے فرمایا مجھے میرے والد نے دیوار کے پیچھے سے ندا دی ہے کہ اے محمد جلدی کرو ہمارے پاس آ جاؤ۔
- 43 س ج امام پنجمؑ نے اپنے کفن کے متعلق کیا وصیت کی؟
 اچھے کپڑوں میں کفن دینا۔ عمدہ چادر اور عمدہ عمامہ دینا کیونکہ مردے اپنے کفنوں پر فخر کرتے ہیں۔
- 44 س ج امام پنجمؑ کی وفات کب ہوئی اور کہاں دفن ہوئے؟
 7 ذی الحجہ ۱۱۳ھ کو وفات ہوئی۔ بادشاہ وقت نے زہر دیا۔ مدینہ میں بقیع میں دفن ہوئے۔
- 45 س ج محمد بن مسلم ثقفی نے کتنی احادیث امام محمد باقرؑ سے نقل کی ہیں؟
 تیس ہزار احادیث
- 46 س ج امام پنجمؑ نے ایمان و اسلام کی کیا تعریف بیان کی ہے؟
 ایمان وہ ہے جو اندرون قلب میں قرار پکڑے اور اس کو خدا تک پہنچائے۔
- ج اسلام وہ ہے جو شخص ظاہری قول و فعل میں ہو جیسے گلہ پڑھا۔ نماز پڑھنا روزہ رکھنا وغیرہ
- 47 س ج امام پنجمؑ نے ارکان ایمان کیا بیان فرماتے ہیں؟
 (۱) توکل علی اللہ (۲) تفویض الامر الی اللہ (۳) رضا بقضاء اللہ (۴) تسلیم لامر اللہ
- 48 س ج امام پنجمؑ کی وصیت بیان کریں؟
 آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ 800 درہم میری غزاداری اور میرے ماتم پر صرف کرنا اور ایسا انتظام کرنا کہ دس سال تک منی میں بزمانہ حج میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے۔ میرے بندھائے کفن قبر میں کھول دینا اور میری قبر کو چار انگلی سے زیادہ اونچی نہ کرنا۔

س 9 امام ششم کے لڑکے۔ لڑکیوں کے نام بتائیں؟

ج لڑکے:- اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ کاظم، اسحاق، محمد، عباس، علی

لڑکیاں:- ام فروہ، اسماء، فاطمہ صغریٰ

س 10 امام جعفر صادقؑ کے شاگرد اور روایان کی کیا تعداد تھی؟

ج تقریباً چار ہزار

س 11 امام ششمؑ کے چند شاگردوں کے نام بتائیں؟

ج ابان بن تغلب، ابو حمزہ ثمالی، حمران بن اعین، زرارہ بن اعین، جابر بن حیان

س 12 کتنے مصنفین نے امام جعفر صادقؑ کے بیان کردہ مسائل کو لکھا؟

ج چار صد مصنفین نے چار صد تصانیف مکمل کیں۔

س 13 امام جعفر صادقؑ نے روح کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

ج روح مثل ہوا کے متحرک ہے اور اس کا نام روح لفظ روح سے مشتق ہے اور اس

کا نام روح پر اس وجہ سے رکھا گیا کہ ارواح ارقم ہوا ہیں۔

س 14 امام جعفر صادقؑ نے ایمان کے کتنے درجات بیان فرمائے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟

ج امام نے سات درجات بیان فرمائے ہیں وہ ہیں نیکی، صدق، رضا، وفا، علم، یقین

س 15 امام جعفر صادقؑ نے اساس اسلام کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

ج امام فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا اسلام عریاں ہے اس کا لباس حیا ہے اسکی

زینت وفا ہے اسکی مردت عمل صالح ہے اس کا رکن زہد ہے ہر شے کی ایک بنیاد

ہوتی ہے اسکی بنیاد یعنی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے۔

س 16 امام جعفر صادقؑ نے مسلم و مومن کی کیا تشریح فرمائی ہیں؟

ج جس نے خدا کے دین کا اقرار زبان سے کیا وہ مسلم ہے اور جس نے خدا کے

ادامہ رونوای پر عمل بھی کیا وہ مومن ہے۔

س 17 امام جعفر صادقؑ نے مفصل کو کیا تحریر کروایا؟

ج امام نے ایک کتاب لکھوائی جس میں الہیات، طبیعیات، علم الحیوانات نباتات

فلکیات، طب، تشریح اجسام، سائنس اور سائنس کے مختلف علوم کے متعلق

لکھوایا۔

س 18 امام جعفر صادقؑ کے چند موکفات کے نام بتائیں؟

ج (۱) رسالہ عبداللہ ابن الجاشی، (۲) رسالہ مروی عن الاعمش (۳) حدیث

مفضل (۴) کتاب الابلجیج (۵) رسالۃ الی الصحابہ (۶) رسالہ بیان غنائم

بلسلہ وجوب حسن (۷) کلام در بیان محبت اہل بیت (۸) کلام در خلق و ترکیب

انسان (۹) مختصر اقوال حکمت و آداب (۱۰) چند نسخہ جات وغیرہ

(۱۱) نشر الدرر (۱۲) وصیت برائے عبداللہ۔ وصیت برائے ابی جعفر

س 19 امام جعفر صادقؑ کی چند وصیتیں بتائیں؟

ج امام جعفر صادقؑ نے چند وصیتیں امام موسیٰ کاظمؑ سے کیں۔ جن میں سے چند

بیان کی گئی ہیں (۱) وہ شخص مستغنی ہے جس نے اپنے مقدر پر راضی ہونے کا

اظہار کیا جس نے اپنی نظریں دوسروں کی چیزوں پر دوڑائیں وہ فقیر مرے گا۔

(۲) جس نے دوسروں کی پردہ دری کی خود اس کے گھر کی چھپانے والی باتیں

ظاہر ہو جائیں گی۔

(۳) جس نے اپنے بھائی کیلئے گڑھا کھودا خود اس میں گرے گا۔

(۴) جو کینوں اور احمقوں سے ملے گا خود حقیر ہو جائے گا۔

(۵) جو علماء سے محبت رکھے گا وہ باعزت ہو جائے گا۔

- س 20 ابو جعفر محمد بن نعمان سے کیا وصیت کی گئی؟
ج امام جعفر صادقؑ نے فرمایا۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بنتا جب تک اس میں یہ تین سنتیں نہ ہوں۔
(۱) خدا کی سنت یعنی اسرار کو چھپانا
(۲) رسول کی سنت یعنی لوگوں سے مدارات کرنا
(۳) امام کی سنت یعنی سختی و مصیبت پر صبر کرنا
- س 21 امام جعفر صادقؑ نے وفات کے وقت قاطع رحم کے متعلق کیا فرمایا
ج امامؑ نے فرمایا جنت کی ہوادار خوشبو قاطع رحم تک نہیں پہنچتی
- س 22 امام جعفر صادقؑ کی شہادت کب ہوئی؟
ج منصور نے زہر سے شہید کروایا۔ آپ 15 شوال ۱۴۸ھ 65 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔
- س 23 امام جعفر صادقؑ نے قرآن پاک کے متعلق کیا فرمایا؟
ج خدا کی قسم قرآن کو اوّل سے آخر تک اس طرح جانتا ہوں گویا میرے ہاتھوں میں آسمان و زمین کی خبریں ہیں۔ ہم انبیاء و رسل کے علوم کے وارث ہیں۔
- س 24 قالین کے شیروں نے امام جعفر صادقؑ کا حکم کیسے تسلیم کیا؟
ج منصور کے جادو گروں کو کھا گئے۔
- س 25 امام جعفر صادقؑ کی اولاد سے فاطمی سادات نے کتنے برس حکومت کی؟
ج 170 برس یعنی 297ھ سے 567ھ تک
- س 26 فاطمی خلفا کی کتنی تعداد تھی؟
ج 14 خلفاء

- س 27 مصر میں فاطمی حکومت کے دوران کس نے جامعہ ازہر کی بنیاد رکھی؟
ج جوہر صقلی نے۔
- س 28 فاطمیوں کی سلطنت کو کس نے ختم کیا؟
ج صلاح الدین یوسف نے یہ چودھویں فاطمی خلیفہ کا وزیر تھا
- س 29 امام جعفر صادقؑ نے تحریر لکھنے کا سلیقہ کیا بیان فرمایا؟
ج جب کچھ بھی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ بسم اللہ میں س دندائے والے س سے لکھنا
- س 30 محمد مسلم ثقفی نے کتنی احادیث امام جعفر صادقؑ سے اخذ کیں۔
ج سولہ ہزار احادیث اخذ کیں
- س 31 امام جعفر صادقؑ نے معرفت اللہ۔ معرفت رسول اور معرفت اولی الامر کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔
ج (۱) حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہنچانو۔ رسول کو اسکی رسالت کے ذریعے پہنچانو اور اولی الامر کو تین امور سے پہنچانو۔ امر بالمعروف، عدل اور احسان سے پہنچانو
- س 32 جابر بن حیان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
ج جابر ۲۲۔ ۲۱ء میں پیدا ہوا جابر کی پیدائش کے چند روز بعد ان کے والد حیان کو محبت اہل بیت ہونے کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ جابر کو فی میں آگیا امام جعفر صادقؑ کی شاگردی اختیار کی ایک بیماری کی صورت میں امام سے التماس دعا کی۔ صحت یاب ہوا۔ امام نے نسخہ بھی دیا۔ جابر بن حیان نے امام کی شاگردی کا ذکر کتاب البیان، کتاب اسطفس، کتاب الحجر اور کتاب اسطفس

ثانی میں کیا ہے۔

س 33 امام جعفر صادق نے تحفظ کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے بیان کریں؟

ج اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيهما من تريد

س 34 امام جعفر صادقؑ کہاں دفن ہیں؟

ج مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔

(9) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

س 1 امام موسیٰ کاظمؑ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

ج 7 صفر 128ھ مقام الجرا (مکہ اور مدینہ کے درمیان) میں پیدا ہوئے

س 2 ساتویں امام کو کاظم کیوں کہتے ہیں؟

ج آپ غصہ کو پی جاتے تھے۔

س 3 باب الحوائج کس امام کو کہتے ہیں؟

ج امام موسیٰ کاظمؑ کا لقب باب الحوائج ہے۔ آپ کے توسل سے دعائیں مانگی

جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔

س 4 امام موسیٰ کاظمؑ کی تصنیف کا نام بتائیں؟

ج مسند امام موسیٰ کاظمؑ آپ کی تصنیف ہے۔

س 5 ساتویں امام کے القاب کیا تھے؟

ج کاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، صابر، امین اور باب الحوائج القاب تھے۔

س 6 صفوان جمال نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟

ج امام نے فرمایا جو بچہ اب میرے گھر سے باہر آئے اور اسکی ہر بات پر معرفت الہ

سے پُر ہو وہی میرے بعد امام ہوگا، اتنے میں امام موسیٰ کاظمؑ تشریف لائے اور

ان کے پاس بکری کا بچہ تھا جسے کہہ رہے تھے اپنے رب کو سجدہ کر۔ یہ دیکھ کر امام

نے انہیں سینے سے لگالیا

س 7 امام موسیٰ کاظمؑ جب نماز پڑھتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟

ج آپ کے اعضاء، جوارح کانپ رہے ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں

ہوتے تھے

- 8 س مہدی نے امام ہفتم کو بغداد کیوں بلایا؟
ج قتل کروانے کیلئے۔
- 9 س آپ قتل ہونے سے کیونکر بچے۔
ج حضرت علی مہدی کو خواب میں نظر آئے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ چنانچہ اس نے قتل کا حکم واپس لے لیا؟
- 10 س ساتویں امام کو عبد صالح کیوں کہا جاتا ہے؟
ج کثرت عبادت اور شب بیداری کی وجہ سے عبد صالح کہا جاتا ہے
- 11 س عراق میں امام موسیٰ کاظم کو کس نے قید کیا؟
ج ہارون رشید نے
- 12 س بغداد میں امام موسیٰ کاظم کو کس نے قید کیا؟
ج ہارون رشید نے
- 13 س امام موسیٰ کاظم کو قید سے کب رہائی ملی؟
ج حضرت علی خواب میں ہارون رشید کو نظر آئے جس کی بناء پر اس نے رہا کیا
- 14 س امام موسیٰ کاظم نے اپنے کس صحابی کو دوسری طرح وضو کرنے کا پیغام دیا؟
ج علی بن یقطین کو کہا کہ وہ بادشاہ کے شر سے بچ جائے
- 15 س امام ہفتم کو ہارون نے دوبارہ قید کب کیا؟
ج 20 شوال 170ھ کو
- 16 س امام ہفتم کو کس کی قید میں رکھا گیا؟
ج عیسیٰ بن جعفر کی قید میں ایک سال رہے، پھر فضل بن ریح کی قید میں رکھا آخر

- میں انہیں سندی بن شاہک کی قید میں بھیجا جس نے آپ کو زہر سے شہید کیا
- 17 س امام موسیٰ کاظم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟
ج 25 رجب 183ھ کو بغداد میں ہوئی
- 18 س مولا پے انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں سب جوانی دھیری گزر گئی یہ کس کا شعر ہے؟
ج یہ مرزا دبیر کا شعر ہے
- 19 س آپ کی میت کے ساتھ بادشاہ نے کیا سلوک کیا؟
ج چھڑی اور بیڑیوں کے ساتھ بغداد کے پل پر میت رکھ دی گئی
- 20 س مجاہد آل محمد نے امام ہفتم کی تجیر و تکفین کیسے کی؟
ج مومنین نے غسل و کفن دیا، انتہائی قیمتی کفن پہنایا گیا، امام کاظم کو نہلایا، امام رضا علیہ السلام باعجاز تشریف لائے نماز جنازہ ہوئی اور انہیں دفن کیا گیا
- 21 س امام موسیٰ کاظم کل کتنے برس قید رہے
ج 14 برس
- 22 س امام موسیٰ کاظم کی کل کتنی اولادیں تھیں؟
ج 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔
- 23 س امام موسیٰ کاظم کی والدہ گرامی کا کیا اسم مبارک تھا؟
ج حمیدہ خاتون
- 24 س امام موسیٰ کاظم کے چند ارشادات بیان کریں
ج 1۔ خبردار تکبر نہ کرنا جس کے دل میں دانہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا

۲۔ عقلمند آدمی دانش و معرفت کے ساتھ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو سکتا ہے۔ لیکن

بغیر حکمت دانش پوری دنیا کے ساتھ بھی راضی نہ ہوگا

۳۔ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔

۴۔ خبردار مزاح نہ کرو اس سے تمہارے چہرے کا نور چلا جاتا ہے

۵۔ جس کی زبان سچ بولتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے۔

25 س امام ہفتم نے کس پیشے کو پسند فرمایا
ج امام نے کاشتکاری و کھیتی باڑی کو پسند فرمایا۔ مسلسل محنت اور کوشش میں مصروف رہے۔

26 س علی بن حمزہ بطنائی نے آپ کو جب اس کاشتکاری سے منع کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟

ج آپ نے فرمایا۔ رسول خدا۔ امیر المومنین۔ اور میرے تمام آباؤ اجداد زمین میں کام کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ انبیاء و مرسلین اولیاء اور صالح بندوں کی سنت ہے۔ میں اسے دوسروں کے حوالے کیوں کروں جو مجھ سے بہتر تھے وہ ہمیشہ ان کاموں میں مصروف رہے۔

(۱۰) حضرت امام علی رضا علیہ السلام

1 س امام علی رضا علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

ج 11 ذیقعد 153ھ کو مدینے میں پیدا ہوئے

2 س امام علی رضا کی کنیت کیا ہے؟

ج ابوالحسن۔

3 س آٹھویں امام لقب رضا کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

ج آپ سے سبھی راضی تھے اس لئے رضا کہا گیا

4 س دوسری تیسری صدی کا شیعہ مذہب کا مجدد کس امام کو کہا جاتا ہے؟

ج امام علی رضا کو کہا جاتا ہے

5 س محمد بن عیسیٰ کو حضورؐ نے خواب میں کتنی کھجوریں دیں؟

ج 18 کھجوریں

6 س آٹھویں امام نے محمد بن عیسیٰ کو عیناً کتنی کھجوریں دیں؟

ج 18 کھجوریں

7 س امام ہشتم نے حروفِ حجبی کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا؟

ج یہ حروف بہت سی صفات رکھتے ہیں۔ انہی حروف کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا انہی

حروف میں قرآن نازل فرمایا۔

8 س چند حروفِ حجبی کے عرفانی معانی بربانی امام علی رضا علیہ السلام بیان کریں؟

ج الف سے اللہ، ب بھائیاں، ت سے تمام الامر بقائم آل محمدؐ، ج سے جمال

اللہ، ح سے حکم اللہ، وغیرہم۔

ج امام علی رضا کا

س 18 شامی وردی کارنگ بنی فاطمہ کی خوشی کیلئے کس نے سبز قرار دیا؟

ج مامون نے

س 19 امام ہشتم کو مروی یعنی خراسان کس نے بلایا؟

ج مامون نے

س 20 کیا امام ہشتم خراسان جانے میں خوش تھے؟

ج نہیں۔ بہ امر مجبوری گئے۔

س 21 نیشاپور میں کتنے موالیان نے امام علی رضا کی بیان کردہ حدیث لکھی؟

ج 24 ہزار موالیان نے

س 22 امام ہشتم نے کیا حدیث بیان فرمائی؟

ج امام موسیٰ کاظم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور حضرت جبریلؑ نے خدا

سے کہا۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اسے زبان پر جاری کرے گا وہ میرے قلعہ

میں داخل ہوگا۔ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔

س 23 امام رضا کی تصانیف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج صحیفۃ رضا، صحیفۃ الرضویہ، طب الرضا، مسند امام رضا

س 24 امام رضا کی شہادت کب ہوئی کون شہادت کا باعث بنا؟

ج ۲۳ ذی قعدہ ۲۰۳ھ کو۔ مامون نے انگوڑوں میں زہر دیا۔

س 25 امام رضا کا روضہ کس شہر میں ہے؟

ج مشهد مقدس ایران میں ہے جس کا پرانا نام سنا آباد تھا۔

س 26 امام ہشتم کی کتنی اولادیں تھیں؟

س 9 امام علی رضا نے مجلس عزائیں کسے دعوت بیان دی؟

ج دہلی خزائی ایک عظیم شاعر کو

س 10 امام علی رضا کی منعقد کردہ مجلس عزائیں کی کیفیت بیان کریں؟

ج ایک پردہ لگا اور مومنین اور مومنات نے مجلس سنی۔ معصومہ قم نے بھی یہ مجلس سنی

بہت رقت ہوئی۔

س 11 امام علی رضا نے معصومہ کے متعلق کیا فرمایا؟

ج منقہ صنعراف کو دور کرتا ہے بلغم کی اصلاح کرتا ہے۔ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے نفس

کو پاک کرتا ہے رنج و غم کو دور کرتا ہے

س 12 امام ہشتم نے انار کے متعلق کیا بیان فرمایا

ج ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے غیر مومن کھائے تو وہ دانہ غائب ہو جاتا ہے

س 13 امام ہشتم نے حافظہ بڑھانے کا طریقہ بیان فرمایا؟

ج آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے، دودھ پینے اور شہد کھانے سے حافظہ بڑھتا ہے

س 14 حضرت فاطمہؑ روزِ محشر خدا سے کیسے انصاف طلب کریں گیں؟

ج امام ہشتم نے فرمایا کہ وہ ساق عرش پکڑ کر قیامت کے دن واقعہ کربلا کا فیصلہ

چاہیں گی۔ اور اس روز آپ کے پاس امام حسینؑ کا خون آلودہ لباس ہوگا۔

س 15 امام ہشتم کو مامون نے مجبور کر کے کب دلی عہد بتایا؟

ج ۲ رمضان ۲۰۱ھ کو

س 16 مامون نے اپنی کس بیٹی کی شادی امام ہشتم سے کی؟

ج ام حبیبہ کی

س 17 سکے پر کس امام کا نام مامون نے کندہ کروایا؟

ج پانچ لڑکے اور ایک لڑکی

س 27 امام ہشتم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟

ج نجمہ خاتون

س 28 امام علی رضا کی کتنی عمر ہوئی؟

ج 55 برس

س 29 امام علی رضا کی کس ہمشیرہ کا مزار قم میں ہے؟

ج حضرت فاطمہ معصومہ قم کا مزار ہے۔

س 30 حضرت علی رضا کے چند اقوال بتائیں؟

ج (۱) آل محمد کی محبت پر اعتماد کر کے عمل صالح اور عبادت میں سعی کرو

(۲) دوستوں سے انکساری سے۔ دشمنوں سے ہوشیاری سے۔ پیام لوگوں سے

کشادہ روئی سے ملو

(۳) شراب خوار کے پاس نہ اٹھو بیٹھو نہ اس پر سلام کرو۔

(۴) گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔

(۵) ایک دوسرے کی زیارت کرو تا کہ آپس میں محبت بڑھے

(۶) افضل ترین مال وہ ہے جس سے آبرو بچائی جائے۔

(۱۱) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

س 1 امام محمد تقی علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

ج ۱۰ رجب ۱۹۵ھ یوم جمعہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔

س 2 مامون نے اپنی کس بیٹی کی شادی امام سے کی؟

ج ام الفضل کی۔

س 3 امام محمد تقی کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟

ج خیزراں، آپ مصری خاتون تھیں۔

س 4 امام نہم کے القاب بیان کریں؟

ج جواد، تقی، قانع، مرتضیٰ

س 5 امام محمد تقی کتنی عمر میں یتیم ہوئے؟

ج 8 برس کی عمر میں

س 6 امام محمد تقی اس صغریٰ میں کس علمی بلندی پر فائز تھے۔

ج آپ مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام

پر مناظرے کرتے تھے آپ کے پاس علم لدنی تھا۔

س 7 امام محمد تقی علیہ السلام نو برس کے تھے کہ بڑے عالم یحییٰ ابن اٹم نے ایک جلسے

میں امام سے پوچھا کہ حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو احکام کیا ہیں؟

ج امام نے اس سوال کی اتنی جزئیات بیان کیں کہ وہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا

امام نے مامون کے کہنے پر کبھی جزئیات کا جواب دیا۔

س 8 اس مناظرے کا مامون پر کیا اثر ہوا؟

ج۔ اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام سے کر دی۔

س 9۔ کیا امام نے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی سے شادی کی

ج۔ آپ نے سمانہ سے شادی کی جس کے بطن سے امام علی نقیؑ پیدا ہوئے

س 10۔ معصم باللہ نے امام محمد تقیؑ کو بغداد کیوں بلایا؟

ج۔ امام الفضل نے شکایتیں کیں۔ وہ خود بھی امام کا مخالف تھا۔ چنانچہ بلایا قید کیا اور اسی سال شہید کر دیا۔

س 11۔ امام محمد تقیؑ کی کتنی اولادیں تھیں اور ان کے کیا نام تھے؟

ج۔ امام کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ علی نقیؑ، موسیٰ مبرقعؑ، فاطمہؑ، املہؑ

س 12۔ امام نجم کی اولاد کس نام سے مشہور ہوئی؟

ج۔ امام علی نقیؑ کی اولاد نقوی کہلائی اور موسیٰ مبرقع کی اولاد رضوی کہلائی۔

س 13۔ موسیٰ کو مبرقع کیوں کہتے تھے؟

ج۔ آپ کمال حسن کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے

س 14۔ امام محمد تقیؑ کی شہادت کب ہوئی اور کہاں دفن ہوئے؟

ج۔ 29 ذی قعدہ ۲۲۰ھ میں شہید ہوئے۔ کاظمین عراق میں مدفون ہیں۔

س 15۔ آپ کو زہر کس نے دلایا؟

ج۔ معصم باللہ نے ام الفضل یعنی آپ کی زوجہ سے زہر دلوایا۔

س 16۔ امام محمد تقیؑ کے چند اقوال بیان کریں؟

ج۔ (۱) چار باتیں انسان کو عمل پر ابھارتی ہیں، صحت، مالداری، علم، توفیق،

(۲) علم عالم کا لباس ہے لہذا اس لباس کو نہ اتارو

(۳) مومن کا ذات اسی میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہے۔

(۴) مخلص اور قابل اطمینان دوست ایک دوسرے کیلئے ذخیرہ ہیں۔

(۵) عافیت بہترین عطیہ خداوندی ہے۔

(۱۲) حضرت امام علی نقی علیہ السلام

- 1 س امام علی نقی علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
ج ۵ رجب ۲۱۳ ھ مدینے کے اطراف میں صریا کے مقام پر پیدا ہوئے۔
- 2 س آپ کی کنیت کیا ہے؟
ج ابو الحسن
- 3 س امام دہم کے القاب کیا ہیں؟
ج نقی - ہادی، نجیب، مرتضیٰ، عالم، فقہ، ناصح، امین، طیب
- 4 س امام علی نقی کی والدہ ماجدہ کا کیا اسم گرامی ہے؟
ج سمانہ، ہمیشہ مستحب روزہ رکھتی تھیں۔ امام نے فرمایا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔
- 5 س متوکل نے دربار کے پردے احتراماً ہٹانے سے جب درباریوں کو منع کیا تو اللہ نے کیا بندوبست کیا؟
ج جب امام علی نقی تشریف لائے تو خدا کی طرف سے ہوانے پر دے ہٹا دیئے اور آپ داخل ہوئے
- 6 س امام علی نے ابو ہاشم کو تہنیز بانوں کا عالم کیسے بنایا؟
ج ایک سنگریزہ اسے چوسنے کو دیا جس کے نتیجے میں وہ عالم بن گیا۔
- 7 س امام علی نقی نے اسم اعظم کی کیا تعریف کی ہے؟
ج اسم اعظم کے 73 حروف ہیں خدا نے ہمیں 72 حروف کی تعلیم دی ہے
- 8 س امام علی نقی نے سبع بن حزمہ کو کونسی دعا تعلیم فرمائی؟

- ج صحیفہ کاملہ کی دعا ”ما من تحل“ جس کے نتیجے میں اسکی مصیبت دور ہوگئی۔
- 9 س واثق نے پوچھا حج کی موقع پر حضرت آدم کے سر کے بال کس نے کاٹے؟
ج امام نے فرمایا حضرت جبرائیل نے۔ انہوں نے یہ کام جنتی یا قوت سے کیا۔ جہاں تک اس یا قوت کی روشنی گئی وہاں تک جگہ حرم میں داخل ہوگئی۔
- 10 س امام علی نقی کی شہادت کا کون باعث بنا؟
ج معتز نے زہر دلوا دیا
- 11 س امام علی نقی کی کتنی اولادیں تھیں؟
ج چار بیٹے اور ایک بیٹی
- 12 س یطہائی کی امام کے خلاف چغلی کھانے پر متوکل نے کیا کہا؟
ج اس نے سعید حاجب سے کہا حاجب نے ابراہیم بن محمد سے امام کے گھر چھاپے مارنے کو کہا۔ وہ بیڑھی لیکر امام کے گھر رات کی تاریکی میں اتر لیکن امام اس کے لیے شمع لیکر آئے امام کو محو عبادت پایا۔
- 13 س متوکل نے امام علی نقی کو بدنام کرنے کیلئے ان کے بھائی موسیٰ سے کیسے رابطہ کیا؟
ج موسیٰ کو سامرے بلایا امام نے موسیٰ کو سمجھایا کہ اسکی صحبت سے بچے لیکن وہ نہ مانا بالآخر آپ نے فرمایا کہ تم کبھی اکٹھے نہ ہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور متوکل فوت ہو گیا۔
- 14 س امام علی کو مدینے سے سامرہ کیوں بلایا گیا؟
ج مدینے کے امام مسجد عبد اللہ بن محمد نے متوکل سے چغلی کھائی اور اس نے آپ کو سامرے بلالیا۔
- 15 س صالح بن سعید نے سامرے میں ملاقات کر کے امام سے کیا متوکل کا گلا شکوہ کیا

اور امام نے کیا اظہار کیا؟

ج صالح بن سعید نے کہا کہ آپ کو چور اور گداؤں کی سرائے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اچانک اسے بہترین باغات نہریں معطر حوریں اور خد متکا نظر آنے لگے اور امام نے فرمایا ہم جہاں کہیں بھی ہوں یہ سب ہمارے لیے موجود ہوتا ہے۔

س 16 امام علی نقیؑ کا روضہ کہاں ہے؟

ج سامرے میں آپ کا روضہ ہے

س 17 متوکل نے امام علی نقیؑ کو گرفتار کر کے گھر بلوایا تو اشعار پڑھنے پر مجبور کیا آپ

نے کیسا کلام سنایا؟

ج امام نے نصیحت آموز اشعار سنائے جسمیں دنیا کی ناپائیداری اور قبر کا ذکر تھا متوکل پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے شراب کی محفل درخواست کر دی۔

س 18 امام علی نقیؑ کے چند اقوال بیان کریں؟

ج (۱) جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔

(۲) فقر سرکش نفس کا سبب ہے اور شدید ناامیدی ہے

(۳) والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت رسوائی کا سبب ہوتا ہے

(۴) شب بیداری نیند کو لذت بخشنا دیتی ہے۔ اور بھوک غذا کو خوش مزہ بنا دیتی ہے

(۵) انسان کی عزت دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے ہے۔

(۶) صبر کرنے والے انسان کیلئے مصیبت ایک ہوتی ہے۔ جزع و نزاع کرنے

والے کے لیے دو ہوتی ہے۔

(۷) طالب علم اور معلم دونوں رشد میں شریک ہیں۔

(۸) خدا کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے

(۹) حسد نیکیوں کو مٹانے والا اور خدا کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے۔

(۱۰) جو شخص خدا کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہے وہ دنیا کے ہر مصائب کو

آسان سمجھتا ہے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔

(۱۳) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

- 1 س امام حسن عسکری علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟
ج ۱۰ ربیع الاول ۲۳۲ھ کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔
- 2 س آپ کے والد اور والدہ کے اسمائے گرامی بتائیں؟
ج امام علی نقیؑ ہیں آپ کے والد ماجد تھے حدیث خاتون آپ کی والدہ تھیں
- 3 س آپ کی کنیت کیا ہے؟
ج ابو محمد
- 4 س امام حسن عسکریؑ کے القابات کے بتائیں؟
ج عسکری، ہادی، ذکی، سراج
- 5 س امام حسن عسکریؑ کی شادی کس خاتون سے ہوئی؟
ج زہرا خاتون سے محترمہ قیصر روم کی پوتی تھیں اور شمعون و صی عیسیٰ کی نسل سے تھیں۔
- 6 س امام حسن عسکریؑ کی کتنی اولادیں تھیں؟
ج صرف امام محمد مہدی
- 7 س امام حسن عسکریؑ سے کوئی تفسیر منسوب ہے؟
ج آثار حیدری
- 8 س امام حسن عسکریؑ کو جب درندوں کے کمرے میں قید کیا گیا تو انہوں نے کیا سلوک کیا؟
ج درندوں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیے۔

- 9 س امام حسن عسکریؑ کو روٹا دیکھ کر بہلول نے وجہ پوچھی تو آپ نے کیا باتیں کی؟
ج بہلول نے دل بہلانے کیلئے کھلونے لا کر دیئے کا کہا امام نے فرمایا ہم کھیل کیلئے نہیں عبادت اور علم کیلئے پیدا کئے گئے۔ بہلول نے پھر پوچھا رو کیوں رہے تھے کہا میں نے اپنی ماں کو آگ جلاتے دیکھا ہے آگ جلاتے ہوئے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں جہنم کے ایندھن کیلئے ہم چھوٹے اور کم سن نہ استعمال کئے جائیں۔
- 10 س خلیفہ مستعین باللہ کے سرکش گھوڑے کا واقعہ بیان کریں؟
ج اس نے امام حسن عسکریؑ کو قتل کرنے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سرکش گھوڑے پر سوار ہونے کا کہا۔ جونہی آپ اس گھوڑے کے قریب ہوئے وہ رام ہو گیا بادشاہ نے وہ انہیں ہی دے دیا۔
- 11 س امام حسن عسکریؑ کتنی زبانوں سے آگاہ تھے؟
ج اپنے اباؤ اجداد کی طرح تمام زبانوں سے آگاہ تھے۔
- 12 س اسحاق کندی کو تاقص قرآن لکھنے سے امام نے کیسے روکا؟
ج امام نے اس کندی کے شاگرد کو یہ سوال دیکر بھیجا کہ اگر اللہ قرآن کو تمہارے پاس لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ؟ اس کا مطلب تمہارے سمجھے ہوئے مطلب کے خلاف ہو۔ کندی نے کہا ایسا ممکن ہے۔ شاگرد نے کہا پھر تاقص قرآن لکھنے سے کیا فائدہ اس پر وہ حیران ہوا اور تاقص قرآن جلا ڈالی۔
- 13 س امام حسن عسکریؑ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟
ج ۸ ربیع الاول ۳۶۰ھ کو جمعہ کے دن سامرہ میں شہید ہوئے
- 14 س امام حسن عسکریؑ کو کس نے زہر دلوایا؟

ج معتمد عباسی نے

س 15 امام حسن عسکریؑ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟

ج امام محمد مہدیؑ آخر الزماں نے

س 16 امام حسن عسکریؑ کے چند ارشادات بتائیں؟

ج (۱) تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تمہارے گناہ کو بھول جائے اور تم نے جو اس پر

احسان کئے ہیں ان کو یاد رکھے

(۲) ہر برائی کی کنجی غصہ ہے

(۳) مومن، مومن کیلئے باعثِ برکت اور کافر کیلئے حجت ہے

(۴) جس رزق کی خدا نے ضمانت دی ہے تم کو واجبِ عمل سے نہ روک دے

(۵) تقویٰ اختیار کرو اور ہمارے لیے باعثِ زینت بنو، باعثِ برائی نہ بنو

س 17 امام حسن عسکریؑ نے اپنے مہمان کی کیا علامتیں بیان فرمائی ہیں؟

ج جو اصول و فروغ اور دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ ان دس چیزوں سے قائل

و عامل ہوں گے۔

(۱) 51 رکعت نماز پڑھنا (۲) سجدہ گاہ کر بلا پر سجدہ کرنا (۳) داہنے ہاتھ میں

انگوٹھی پہننا۔ (۴) اذان و اقامت کے جملے دو دو بار کہنا (۵) اذان و اقامت

میں جی علی خیر العمل کہنا (۶) نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھنا (۷) دوسری رکعت

میں قنوت پڑھنا (۸) آفتاب کی زردی سے پہلے نماز عصر اور تاروں کے ڈوب

جانے سے پہلے نماز فجر پڑھنا (۹) سر اور داڑھی میں دسمہ کا خضاب کرنا

(۱۰) نماز میت میں پانچ تکبیریں پڑھنا۔

(۱۴) حضرت امام محمد مہدیؑ علیہ السلام عجل اللہ فرجہ

س 1 حضرت امام مہدیؑ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟

ج ۱۵ شعبان المعظم ۲۵۵ھ کو سامرا میں پیدا ہوئے۔

س 2 بارہویں امامؑ کی کنیت کیا ہے؟

ج ابوالقاسم

س 3 بارہویں امامؑ کے القابات کیا ہیں؟

ج مہدی موعود، امام عصر، صاحب الزمان، بقیۃ اللہ قائم

س 4 امام مہدیؑ کے والدین کے نام بتائیں؟

ج والد ماجد۔ امام حسن عسکریؑ۔ والدہ ماجدہ نرجس خاتون (پھول کا نام) تھا۔

آپ کی والدہ کو غلط (لذیذ پھل)، سون (خوشبودار پھول)، حدیثہ (نئی)

حکیمہ (وانا) اور ملیکہ (شاہزادی) بھی کہا جاتا تھا۔

س 5 آپ کا بچپن کیسے گزرا؟

ج پانچ برس والد ماجد کے زیرِ سرپرستی رہے دشمنوں کے شر سے بچنے کیلئے پوشیدہ

رہے۔ ۲۶۰ھ میں والد ماجد کا انتقال ہوا تو عہدہ امامت آپ کے سپرد ہوا۔

س 6 بارہویں امامؑ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کتنا ہے؟

ج ۲۶۰ھ سے ۳۲۹ھ تک گویا تقریباً 70 برس

س 7 بارہویں امامؑ کا غیبت کبریٰ کا زمانہ کتنا ہے؟

ج ۳۲۹ھ سے اس وقت تک جب خدا تعالیٰ ظہور کی اجازت دیگا۔

س 8 بچپن میں کسی اور ہستی کو بھی قوم کی قیادت بخشی گئی؟

- س 16 امام مہدیؑ کی غیبت صغریٰ کے دور میں نیابت کا کام کس نے کیا؟
ج عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد سری
- س 17 کیا ہدایت کا عمل غیب میں رہ کر ہو سکتا ہے۔ مثالیں دیں؟
ج (۱) اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے۔ (قرآن پاک)
(۲) عقل غائب اور راہنما ہے
(۳) بیت اللہ ہر شخص کے سامنے نہیں لیکن ہدایت کرتا ہے
(۴) حضرت عیسیٰؑ غائب ہیں حضرت خضرؑ غائب ہیں
(۵) قرآن کے الفاظ اپنی باطنی اشراۃ سے ہدایت کرتے ہیں
(۶) نور ہدایت کرتا ہے۔
- س 18 امام مہدیؑ کیوں غائب ہیں؟
ج مصلحت خداوندی ہے تاکہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ شب قدر نزول ملائکہ ہوتا رہے آل رسولؐ پڑھائے جانے والے مظالم کا بدلہ لیا جاسکے۔
- س 19 شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی نے کہاں اور کب امام سے ملاقات کی
ج ۶۹۰ھ میں جزیرہ خضر میں ملاقات کی۔
- س 20 شیخ کے اس سفر اور ملاقات کا تذکرہ کس کتاب میں موجود ہے؟

- ج حضرت یحییٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔
- س 9 بارہویں امام کی طرح کیا اور بھی خاصان خدا غائب ہیں؟
ج جی ہاں! حضرت خضرؑ، حضرت ادریسؑ، حضرت الیاسؑ اور حضرت عیسیٰؑ
- س 10 حضرت عیسیٰؑ کب سے غائب ہیں؟
ج جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب تک ان کی غیبت کو 2002 برس ہو چکے ہیں۔
- س 11 حضرت علیؑ کے پاس کون بزرگ غیبت کے پردے سے نکل کر حضورؐ کا افسوس کرنے آئے تھے؟
ج حضرت خضر علیہ السلام
- س 12 حضرت عیسیٰؑ کب تشریف لائیں گے؟
ج جب بارہویں امام ظہور فرمائیں گے۔
- س 13 باطل قوتوں کا کوئی نمائندہ ہے جو چھپ کر بہکاتا ہے؟
ج شیطان یہی کام کرتا ہے۔
- س 14 شیطان بہکانے کا کام کب سے کر رہا ہے؟
ج حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے
- س 15 عدل الہی کا کیا تقاضا ہے کہ الہی رہنمائی کا بندوبست کیا جائے؟
ج عدل الہی کے تقاضے کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل تشریف لائے۔ ان کے اوصیاء و نائبین اور صلحانے یہ کام کیا۔ حضورؐ کے بارہ نائبین اس کام کیلئے دنیا میں آئے اس سلسلے کی بارہویں ہستی اب موجود ہے جنہیں امام مہدیؑ کہتے ہیں۔

ج شیخ کے اس سفر کا ذکر بحار الانوار میں موجود ہے مجالس المؤمنین، الثالث الحمد اور نجم الثاقب میں بھی ہے

س 21 شیخ نے یہ صفر کتنے دن میں کیا اور جزیرے میں کتنے دن رہے؟

ج 16 دن میں سفر ہوا اور 18 روز جزیرے میں رہے

س 22 شیخ زین الدین نے 18 روزہ قیام میں اس جزیرے میں کیا کچھ دیکھا؟

ج کشادہ سڑکیں، شاندار مکانات، باغات، میوہ جات، اور نہایت شریف وضع دار لوگ دیکھے۔

س 23 شیخ زین جس شہر میں گئے اس کا حکم کون تھا؟

ج سید شمس الدین جو کہ پانچویں پشت میں امام زماں سے ملتا تھا۔

س 24 جزیرہ خضر کہاں واقع ہے؟

ج بحر اوقیانوس کے انتہائی مغرب میں جہاں جزائر برمودہ واقع ہے۔

س 25 کیا جزیرہ خضر پر کوئی کتاب بھی لکھی گئی ہے۔

ج ناجی التجار ایک عرب نے کتاب لکھی ہے اس کا فارسی اور اردو میں ترجمہ ہو چکا

ہے فارسی کتاب کی تقریظ آیۃ اللہ شہاب الدین مرعشی نے لکھی ہے اردو ترجمہ سید

قمر عباس زیدی نے کیا ہے۔

س 26 حضرت زرجس خاتون والدہ امام العصرؑ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج امام علی نقیؑ نے بشیر بن سلیمان کو خط دیا اور بغداد روانہ کیا جاتے ہوئے اسے

ہدایت دیں کہ تم عمر بن یزید بردہ فروش کے پاس جانا اس کے پاس ایک کنیر

ہے جس کا حریر کا لباس ہے۔ وہ باعفت ہے اسے یہ خط دینا یہ خط رومی زبان میں

لکھا گیا تھا۔ ایسا ہی ہوا اور وہ کنیر لیکر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ کنیر قیصر

روم کی بیٹی تھی انہوں نے خواب میں حضورؐ۔ حضرت عیسیٰؑ۔ حضرت مریمؑ، اور

حضرت فاطمہؑ کی زیارت کی۔ حضرت امام حسن عسکریؑ کو بھی خواب میں دیکھا۔

انہیں حضرت حکیمہ کے حوالے کیا گیا انہوں نے انہیں احکام اسلام بتائے امام علی

نقیؑ نے انکی شادی ابو محمد حسن عسکریؑ سے کی اور فرمایا یہ حضرت قائمؑ کی والدہ ہیں

س 27 کس جزیرے کی خوراک جزیرہ خضر سے جاتی ہے؟

ج جزیرہ روضہ کی۔

س 28 امام کس شہر میں ظہور فرمائیں گے؟

ج مکہ میں

س 29 امام کس روز ظہور فرمائیں گے؟

ج روز عاشور

س 30 امام مہدیؑ کے کتنے سپاہی ہونگے؟

ج 313 سپاہی ہونگے

س 31 کیا ان 313 سپاہیوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے؟

ج غایۃ المرام، قیامت صغریٰ بشارت الاسلام اور دیگر کئی کتابوں میں ان کا ذکر

موجود ہے۔

س 32 کیا امام کے ان سپاہیوں کے اسماء ان کتابوں میں موجود ہیں؟

ج جی ہاں ان کے نام ولدیت، شہر، ملک تک کے نام موجود ہیں

س 33 تقریباً کتنے شہروں کے نام مختلف کتابوں میں درج ہیں جہاں کے لوگ امام کی

فوج میں شامل ہونگے؟

ج تقریباً 101 شہروں کے لوگ شامل ہونگے۔

س 34 شروع میں امام کی فوج میں 313 ہوگی آخر میں کتنی ہو جائے گی؟

ج 10 ہزار سے زائد

س 35 سب سے زیادہ امام کے سپاہی کن شہروں سے ہونگے؟

ج طالقان: 24، قم: 18، مرو: 12، یمن: 14

روم میں دوسری جگہ سے آئے ہوئے مسلمان: 9 اصحاب کھف: 7

نیشاپور: 8 مدائن: 8 ہرات: 2 کوفہ: 14 مدینہ: 10 کاشان: 8

عابدان: 9 قزوین: 10

س 36 ملتان سے کتنے سپاہی ہونگے؟

ج ملتان سے صرف ایک سپاہی ہوگا اور اس کا نام حیدر بن ابراہیم ہوگا۔

س 37 علامہ صادق شیرازی نے ”المہدی فی القرآن“ میں کتنی آیات امام مہدی کی شان میں بیان کی ہیں؟

ج 106 آیات

س 38 حضورؐ نے بارہویں امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج حسنؑ اور حسینؑ اپنے باپ کے بعد میری امت کے امام ہونگے۔ جو انان جنت

کے سردار ہونگے۔ ان کی والدہ سیدہ النساء العالمینؑ ان کا باپ سید الاوصیا۔

حسینؑ کی اولاد سے نواآئمہ ہونگے نواں قائم ہوگا۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔

س 39 حضرت علیؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج اے حسینؑ تیری اولاد سے نواں قائم بالحق ہوگا۔ دین امام کو غالب کریگا۔ عدل

الہی کو عام کرے گا

س 40 امام حسنؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج ہمارا قائم واحد امام ہوگا جو ہر قسم کے تسلط سے آزاد ہوگا

س 41 امام حسینؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج میری اولاد سے نواں ہوگا وہی قائم بالحق ہوگا۔

س 42 امام علیؑ زین العابدینؑ نے بارہویں امام کے متعلق کیا فرمایا؟

ج فرمایا ائمہ قائم ہم سے ہوگا وہ اس وقت ظہور کرے گا جب مشیت ایزدی کا تقاضا

ہوگا اس پر کسی حکمران کا تسلط نہ ہوگا۔

س 43 امام محمد باقرؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج فرمایا اے ابو حمزہ۔ اللہ کی حتمی تقدیر سے ہمارے قائم کا قیام بھی ایک ہے

س 44 امام جعفر صادقؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج فرمایا میرے موسیٰ بیٹے کی اولاد سے پانچواں قائم ہوگا۔ سیدۃ النساء کا فرزند ہو

گا۔

س 45 امام موسیٰ کاظمؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج ائمہ نے فرمایا میں بھی قائم بالحق ہوں لیکن قائم روئے ارض کو اعداء دین سے

پاک کر کے ظلم سے پر شدہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ وہ میری اولاد

سے پانچواں ہوگا۔

س 46 امام علیؑ رضاؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج امام نے فرمایا اے وعیل میرے بعد میرا بیٹا ہوگا۔ محمدؑ کے بعد اس کا بیٹا علیؑ ہوگا علیؑ کے

بعد اس کا بیٹا حسنؑ عسکریؑ ہوگا۔ اور حسن عسکریؑ کے بعد اس کا بیٹا حجت التائم ہوگا۔

س 47 امام محمد تقیؑ نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج فرمایا۔ وہ قائم ہوگا جس کی غیبت میں ظہور کا انتظام کیا جائیگا۔ ظہور کے بعد اسکی اطاعت ہوگی۔ وہ میری اولاد سے تیسرا ہوگا۔

س 48 امام علی نقیؑ نے بارہویں امام کے متعلق کیا فرمایا؟

ج فرمایا میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا۔ اور حسن کے بعد حسن کا بیٹا قائم مہدی امام ہوگا۔ جو ظلم و جور سے پر شدہ روئے ارض کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔

س 49 امام حسن عسکری نے امام مہدی کے متعلق کیا فرمایا؟

ج امام حسن عسکری نے فرمایا اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے دنیا سے اس وقت نہ اٹھایا جب تک مجھے میرے بعد میرا ایسا خلیفہ دکھانے دیا جو تمام لوگوں کی نسبت صورت و سیرت میں زیادہ شبیہ رسولؐ ہے اور اسے اللہ غیبت میں محفوظ رکھے گا۔ یہ روئے ارض کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔

س 50 امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کے تین سو عقیدے کیوں کئے؟

ج عقیدہ کا فلسفہ ہے کہ بچہ عمر دراز پاتا ہے اس فلسفے کے مطابق امام نے بکثرت عقیدے کئے کیونکہ امام مہدی نے طویل عمر گزارنا تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ نے عثمان بن سعید سے کہا کہ دس ہزار روٹی اور دس ہزار رطل گوشت خرید کر تقسیم ہو۔ دس ہزار رطل تقریباً 3276 کلوگرام کے برابر ہے۔

س 51 امام کے نواب اربعہ نے مختلف شہروں میں کن کو دکلائے مقرر کیا تھا؟

ج (۱) حاجز ابن یزید (۲) ابراہیم ابن محضر یار

(۳) احمد ابن اسحاق (۴) محمد ابن ابراہیم

(۵) محمد ابن جعفر (۶) قاسم ابن علا

(۷) حسن ابن قاسم (۸) محمد ابن شاذان

س 52 غیبت صغریٰ میں کن حضرات نے بارہویں امام کی زیارت کی؟

ج جناب حکیمہ خاتون، نسیم (کنیز امام حسن عسکری) ابو خاتم (خادم امام) چالیس افراد کو امام نے کہا میرے بعد یہ تمہارا صاحب الامر ہوگا۔

ابوالادیان، احمد ابن اسحاق قتی

س 53 امام حسن عسکری کے وفات کے بعد غیبت صغریٰ میں کن کو زیارت امام ہوئی؟

ج حاضر ابن یزید (وکیل) جعفر بن علی۔ سیما غلام یا عباس سپاہی۔

ابراہیم بن ادریس، علی بن میزبار، محمد بن عثمان

س 54 غیبت کبریٰ میں کون زائرین امام ہیں؟

ج نجم الثاقب میں سہ افراد کا ذکر ہے۔ جیسے محمد ابن عیسیٰ، یاقوت وہاں۔

اسماعیل ابن حسن ہرقلی۔ ابرار حج صحابی، مقدس اردبیلی، محمد حسن نجفی۔

آیۃ اللہ قزوینی۔ احمد عسکری، الحاج علی بغدادی

س 55 امام جعفر صادقؑ نے ایام غیبت میں کس دعا کو بکثرت پڑھنے کی تاکید فرمائی؟

ج دعا غریق جو ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے اللھم عرفنی نفسک..... الی الخ

س 56 ظہور امام زمانہ کی چند علامات بتائیں؟

ج (۱) ندائے آسمانی۔ یہ جبریلؑ ندا دیں گے۔ اس میں امام اور ان کے والد کا نام لیا جائے گا تمام اہل ارض سنیں گے۔

(۲) خروج سفیانی۔ یہ باطل کا نمائندہ ہوگا۔

(۳) وادی بیدار میں سفیانی لشکر کا غرق ہونا

- ج امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ قائم آل محمدؑ میں دیگر انبیاء کی سنتوں کے علاوہ نبی الانبیاء کی سنت قائم بالسیف بھی ہوگی۔
- س 66 قائم آل محمدؑ کے پاس کونسے تبرکات انبیاء ہونگے؟
- ج امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ قائم آل محمدؑ کے پاس پرچم نبیؐ، انگشتی سلیمانؑ، حضرت موسیٰؑ کا عصا اور پتھر ہوگا۔
- امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ قائم آل محمدؑ کے پاس حضورؐ کی وہ قمیض ہوگی۔ جو آپؐ نے روز اول پہنی تھی۔ اسکی دائیں آستین پر دندان مبارک سے نکلے ہوئے خون کا دھبہ ہوگا۔ حضرت یوسفؑ کی قمیض بھی ہوگی۔ حضورؐ کا حساب نامی عمامہ آپؐ کی زرہ اور تلواریں بھی ہوگی۔
- س 67 قائم آل محمدؑ کیا اصلاحات کریں گے؟
- ج مسجد الحرام میں توسیع مقام ابراہیمؑ کا اصلی مقام پر اعادہ واجب طواف پر اکتفا۔ نبی شیبہؑ کو سزا دی جائے بیت اللہ کے ہدایا میں ناجائز تصرف کرنے پر۔
- س 68 امام مہدیؑ کا نظام حکومت کیسا ہوگا؟
- ج قرآن و سنت کے قوانین نافذ کئے جائیں گے۔
- س 69 قائم آل محمدؑ مقدمات کے فیصلے کیسے کریں گے؟
- ج علم امامت سے فیصلے کئے جائیں گے۔
- س 70 امام مہدیؑ کے دور میں اجتماعی زندگی کا رنگ ڈھنگ کیسا ہوگا؟
- ج عدل و انصاف اور امن ہوگا
- س 71 امام مہدیؑ کے دور میں ثقافت اور نصاب تعلیم کیسے ہونگے؟
- ج خلاصہ اسلامی ثقافت ہوگی۔ نصاب تعلیم میں تعلیم و تربیت کا صحیح خطوط پر انتظام

- (۴) یمانی امام مہدیؑ کیلئے دعوت دیگا۔
- (۵) نفس ذکیہ کو شہید کیا جائیگا۔
- س 57 امام مہدیؑ کی سب سے پہلے بیعت کون کریں گے؟
- ج حضرت جبریلؑ
- س 58 سید الملائکہؑ کے بعد لون بیعت کریں گے؟
- ج ۱۳۱۳ انصار امام مہدیؑ
- س 59 مکے میں کتنے افراد امام مہدیؑ کے پاس جمع ہو جائیں گے؟
- ج دس ہزار
- س 60 پھر امام مہدیؑ کس شہر کا رخ کریں گے؟
- ج مدینے کی طرف
- س 61 امام مہدیؑ کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
- ج السلام علیک یا بقیۃ اللہ
- س 62 مدینے کے بعد امامؑ کس شہر کا رخ کریں گے؟
- س نجف اشرف کی طرف آئیں گے
- س 63 امام مہدیؑ کا دار الخلافہ کونسا شہر ہوگا۔
- ج کوفہ
- س 64 نجف اشرف میں آپؑ کیسی مسجد تعمیر کریں گے؟
- ج دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہوگی جس کا ایک ہزار دروازہ ہوگا
- س 65 امام مہدیؑ کا جہاد کیسا ہوگا؟

کیا جائیگا۔

72 س امام آخر الزماں کے دور میں اقتصادیات کی حالت کیسی ہوگی؟
ج حضورؐ نے فرمایا۔ امام مہدیؑ دولت کی صحیح مساویانہ تقسیم کریں گے۔

ہر شخص کی ضرورت پوری ہوگی

73 س امامؑ کے دور میں زراعت کیسی ہوگی؟

ج امام مہدیؑ کے دور میں بارش مناسب ہوگی۔ پانی وافر ہوگا۔ فصلوں میں برکت ہوگی۔ صحرا اور جنگل آباد ہونگے، بنجر زمین آباد ہوگی۔ غیر آباد اراضی میں آباد کاری ہوگی۔ ضروریات زندگی وافر ہونگی۔

74 س قائم آل محمدؑ کے دور میں امن عامہ کا حال کیسا ہوگا؟

ج امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ امام مہدیؑ کے دور میں ایک عورت اگر مشرق سے چل کر مغرب جانا چاہے گی اسے راستے میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔

75 س قائم آل محمدؑ کے دور میں مواصلاتی رابطے کیسے ہونگے؟

ج مشرق کا مومن مغربی مومن کو اور مغرب کا مومن مشرقی مومن کو اپنی جگہ سے دیکھے گے۔

76 س امام مہدیؑ کی حکومت کتنے برس ہوگی اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟

ج حکومت 70 برس ہوگی بالآخر آپ کو شہید کیا جائے گا۔

77 س امام مہدیؑ کا غسل کفن کون کریگا؟

ج امام حسینؑ کو زندہ کیا جائیگا۔ وہ امام کے پاس آئیں گے امام انہیں انگوٹھی دیں گے

پھر امام مہدیؑ کی شہادت ہوگی امام حسینؑ ہی امام مہدیؑ کی تجیز و تکفین کریں گے

یہ روایت منتخب الانوار المنضیہ میں ہے

78 س زیات ناحیہ کس امام سے منسوب ہے؟

ج امام مہدیؑ سے

79 س حج کے روز امام مہدیؑ کہاں ہوتے ہیں؟

ج مکہ میں حج کرنے آتے ہیں پھر زیارت معصومین کرتے ہیں۔

80 س امام مہدیؑ کی دعاؤں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج امام مہدیؑ کی دعائیں کئی کتابوں میں درج ہیں جیسے نجم الثاقب، مفاتیح الجنان

صحیفۃ المہدیؑ، چند دعاؤں کے یہ نام ہیں دعائے ندبہ، سباسب، دعائے عبرات

دعائے عہد، دعائے فرج، دعائے حجاب، دعائے افتتاح دعائے معرفت،

دعائے توحید

81 س موجودہ دور کے مجتہدین کے نام بتائیں جنہیں امامؑ کی زیارت ہوئی ہو؟

ج آیۃ اللہ سید شہاب الدین مرعشی مرحوم، آیۃ اللہ سید روح اللہ خمینی مرحوم

82 س امام مہدیؑ کو کس حال میں پکارنا چاہیے؟

ج انتہائی سنگین حالات میں

83 س کس دعا کو چالیس روز صبح کے وقت پڑھا جائے تو مومن امام کے ساتھیوں میں

شامل ہو جاتا ہے۔

ج دعائے عہد کو یہ دعا مفاتیح الجنان، وظائف مقبول میں موجود ہے

84 س دعائے سباسب کے فوائد بتائیں؟

ج دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ جادو کے اثر کو دور کرتی ہے۔ مقاصد دینی

، دنیاوی پورے ہوتے ہیں۔

85 س دعائے فرج کے فوائد بیان کریں؟

ج امام زمان نے یہ دعا ابوالحسن محمد ابن احمد کو تعلیم فرمائی جو قتل کے خوف سے بغداد میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ اس دعا کی برکت سے اس نے شر سے نجات پائی

س 86 دعائے توحید کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج شیخ کفہمی نے ابن عیاش سے روایت کی کہ یہ دعا شیخ ابو جعفر محمد ابن عثمان بن سعید کے ذریعہ ناجیہ مقدسہ سے امام زمان نے صادر فرمائی ماہِ رجب میں ہر روز پڑھنے کیلئے

س 87 دعائے علوی مصری کے فوائد بتائیں؟

ج امام زمان کی دعا ہے بڑی سے بڑی مصیبت اور شر اعدا سے بچاتی ہے

س 88 دعائے الہتمات العامہ کے کیا فوائد ہیں؟

ج امام زمانہ سے منقول ہے نماز کے بعد دیگر مقامات پر اس دعا کا پڑھنا آفات و ملیات سے حفاظت کیلئے بے حد موثر ہے

س 89 دعائے نجات کی برکات بیان کریں؟

ج بقیۃ اللہ کی دعا ہے حوادث اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔

س 90 مشکلات سے نجات کی دعا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج سید صد الدین شیرازی نے للہ خلاص من اللہ اندک کے متعلق فرمایا ہے یہ عظیم دعا حضرت حجت سے منقول ہے جس شخص کی کوئی شے ضائع ہو جائے یا کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ اس دعا کو پڑھے۔ موثر ہے

س 91 دعائے ندبہ کی فضیلت بیان کریں؟

ج سید ابن طاووس نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان دعا ہے ناجیہ مقدسہ سے صادر ہوئی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحی، عید غدیر، یوم جمعہ پر پڑھنا سنت ہے

س 92 دعائے عبرات کے اثرات بیان کریں؟

ج سید رضی الدین کو امام زمان نے یہ دعا تعلیم فرمائی انہوں نے حسب الحکم اس دعا کو چالیس روز پڑھا اور قید سے رہائی پائی۔

س 93 دعائے امام عصر بیان کریں؟

ج اللهم کن قوليک الحجة ابن الحسن صلوتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة و فی کل ساعة ولیاً وحافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً عیناً حتی تسکنہ، ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلاً

س 94 چہارہ معصومین کی امہات کے اسمائے مبارکہ بتائیں؟

ج	نمبر شمار	نام معصومین	نام والدہ ماجدہ
۱	حضرت محمد مصطفیٰ	حضرت آمنہ	
۲	حضرت فاطمہ	حضرت خدیجہ	
۳	حضرت علی	حضرت فاطمہ بن اسد	
۴	حسین شریفین	حضرت فاطمہ	
۵	امام علی زین العابدین	حضرت شہربانو	
۶	امام محمد باقر	فاطمہ بنت حسن	
۷	امام جعفر صادق	ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر	
۸	امام موسی کاظم	حضرت حمیدہ	
۹	امام علی رضا	حضرت نجمہ خاتون	
۱۰	امام محمد تقی	حضرت خیزران	
۱۱	امام محمد تقی	حضرت سمانہ	

ج حضور کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ حسنین کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان کا مفصل ذکر دوسرے باب میں گذر چکا ہے

س 98 حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج آپ ہاشمیہ خاتون تھیں۔ آپ کے چار بیٹے طالب، عقیل، جعفر علی اور ایک بیٹی ام ہانی تھیں۔ حضرت علی کی ولادت کے وقت آپ کعبہ کے پاس آئیں مولود کا واسطہ دیا۔ دیوار شق ہوئی آپ اندر داخل ہو گئیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے اپنی والدہ کی وفات کی خبر حضرت علی نے حضور کو دی۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چالیس تکبیریں کہیں۔ قبر میں بھی حضور اترے۔ حضور نے اپنا عمامہ اور پیرہن کفن میں دیا۔

س 99 حضرت شہر بانو کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج حضرت شہر بانو بنت یزدجرد امام چہارم کی والدہ ہیں حضرت علی کے دور میں کنیزوں میں آئیں۔ حضرت علی نے ان کی شادی امام حسین سے کر دی حضرت علی زین العابدین کی ولادت کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔

س 100 فاطمہ بنت حسن کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج فاطمہ بنت امام حسن کی شادی امام چہارم سے ہوئی۔ امام محمد باقر کی ولادت ہوئی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا۔ وہ ایسی صدیقہ تھیں کہ امام حسن کی اولاد میں ان کی نظیر نہ تھی۔ ایک دفعہ گرتی ہوئی دیوار کو حضور کا واسطہ دیکر روک دیا۔ میدان کر بلا میں موجود تھیں۔

س 101 ام فروہ بنت قاسم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج ام فروہ بنت قاسم پانچویں امام کی شریک حیات اور چھٹے امام کی والدہ تھیں۔

۱۲ امام حسن عسکری حضرت حدیث

۱۳ امام مہدی زرجس خاتون

س 95 حضرت آمنہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج حضرت آمنہ بنت وہب مکہ میں رہتی تھیں۔ عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ مکہ کی لڑکیوں میں ان سے زیادہ پاک دامن، باعفت لڑکی نہیں ہے وہ باوقار پاکیزہ عقلمند و دیندار ہیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے حضرت عبدالمطلب سے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے عبد اللہ کیلئے یہ ہدیہ قبول کریں۔ جسے حضرت عبد اللہ کی رضامندی سے قبول کیا گیا۔ حضرت آمنہ شیریں سخن اور شاکستہ تھیں حضور کی عمر سات برس تھی جب ان کا انتقال ہوا۔

س 96 حضرت خدیجہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج حضرت خدیجہ بنت خویلد، عقل مند، دور اندیش، اور عفت کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ بہت بڑی تاجرہ تھیں، حضور کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر اپنا مال تجارت انہیں دیا۔ آپ شام یہ مال لیکر گئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام پسرہ ساتھ تھا۔ بہت منافع ہوا۔ میسرانے حضور کی کرامات بیان کیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کے ذریعہ حضور کے ہاں پیغام بھیجا۔ اس طرح حضور کی زوجیت میں آئیں اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ اللہ نے حضرت فاطمہ جیسی بیٹی دی جس سے نسل آگے بڑھی۔ آپ کا انتقال 65 برس کی عمر میں ہوا حضور خود ان کی قبر میں اترے خود حضرت خدیجہ کی میت قبر میں اتاری، ان کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا۔

س 97 حضرت فاطمہ کے متعلق مختصر بیان کریں؟

امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ میری والدہ با ایمان متقی، نیکو کار تھیں۔ ام فروہ اتنی متقی اور عظیم تھیں کہ لوگ امام صادقؑ کو ابن الکترمہ کہتے تھے۔

س 102 جناب حمیدہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔

ج آپ امام موسیٰ کاظمؑ کی والدہ تھیں۔ امام محمد باقرؑ کے کہنے پر ابن عکاشہ اسدی انہیں بردہ فروش سے خرید کر لائے امام محمد باقرؑ اس پر بہت خوش ہوئے اور امام جعفر صادقؑ سے ان کی شادی کی۔ آپ نے علمی ماحول میں علم و معرفت میں کمال حاصل کیا۔ عورتوں کو درس حکمت دیئے لگیں۔ امام موسیٰ کاظمؑ کی ولادت پر امام جعفر صادقؑ نے تین روز تک عام لوگوں کو کھانا کھلایا۔

س 103 حضرت نجمہ خاتون کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج امام علی رضاؑ کی والدہ تھیں۔ عقل مند۔ متدین تھیں۔ امام کاظمؑ کی والدہ حمیدہ نے خواب میں حضورؐ کو دیکھا کہ حضورؐ نے فرمایا یہ کنیز تمہارے بیٹے موسیٰ کیلئے ہے۔ چنانچہ جناب حمیدہ نے اس کنیز کی شادی موسیٰ کاظمؑ سے کر دی۔ امام رضاؑ کی ولادت پر ساتویں امامؑ نے فرمایا تم پر تمہارے پروردگار کا لطف ہے۔

س 104 جناب خیزرانؑ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج آپ امام محمد تقیؑ کی والدہ تھیں۔ حضورؐ نے فرمایا میرے والد قربان اس شخص پر جو کہ پاکیزہ و نوبی کنیزوں کا فرزند ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہؑ کے خاندان سے تھیں

س 105 جناب سمانہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج آپ امام علی نقیؑ کی والدہ تھیں۔ امامؑ نے فرمایا میری والدہ میرے حق سے واقف ہیں اور اہل بہشت سے ہیں۔ سرکش شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ خدا ان کا حافظ و نگہبان ہے امامؑ کی زوجہ اور امامؑ کی والدہ تھیں۔

س 106 جناب حدیثہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج آپ کا نام حدیثہ سلیل اور معروف نام جدہ تھا۔ صالح اور عارفہ تھیں۔ امام حسن عسکریؑ کی والدہ تھیں آپ بھی کنیز تھیں۔ اپنے وطن میں شہزادی تھیں۔ یہ بی بی اسرار اہل بیتؑ کی امین تھیں۔

س 107 جناب زرجس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

ج آپ بارہویں امامؑ کی والدہ تھیں۔ ان کا مفصل ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

س 108 آئمہ طاہرینؑ کی درج ذیل ہم شیرگان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(۱) حضرت ام ہانیؑ (۲) حضرت زینبؑ (۳) حضرت ام کلثومؑ

(۴) فاطمہ معصومہؑ (۵) فاطمہ ہم شیرہ امام محمد تقیؑ (۶) حکیمہ

حضرت ام ہانیؑ۔ ام ہانی حضرت علیؑ کی ہم شیرہ تھیں وہ ادیب و عقلمند مستور

تھیں۔ حضورؐ سے انہوں نے 46 احادیث بیان کی ہیں۔ فتح مکہ کے موقعہ پر

جن لوگوں کو انہوں نے پناہ دی تھی حضورؐ نے بھی ان کو پناہ دے دی۔ حضرت علیؑ

کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں

حضرت زینبؑ۔ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کی ہم شیرہ تھیں زہد و

تقویٰ اور پاک دامنی میں جناب سیدہ کا نمونہ تھیں۔ پختن پاک کی نظر میں

آپ کا بہت بلند مرتبہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں قبر رسولؐ پر جاتی تھیں بھائی

اور والد محترم ہمراہ ہوتے تھے۔ فصاحت و بلاغت اور شجاعت بے نظیر تھی۔ اسیرہ

شام کہلائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؑ سے ان کی شادی ہوئی ان کے چار بیٹے

عون، اکبر، محمد، عباس ہوئے ایک بیٹی ام کلثوم تھیں ان کے دو بیٹے عون اور محمد

کربلا میں شہید ہوئے۔

بیٹا دیا جس کا نام ایمن تھا آپ ام ایمن کہلائیں۔ حضورؐ نے ام ایمن کو جنتی قرار دیا ہے۔ ام ایمن جنگ کے دنوں زنجیوں کو پانی پلاتی اور مرہم پٹی کرتی حضرت فاطمہؑ کی خاطر فدک کی گواہی بھی دی۔ خلیفہ سوم کے عہد میں فوت ہوئیں۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے زید سے شادی کی اور اسامہؓ کی والدہ بنیں۔

س 110 حضرت حجت ابن الحسنؑ کے چند اقوال بیان کریں؟

ج

(۱) خدا نے مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ انہیں بے مقصد چھوڑ رکھا ہے
(۲) ہمارے قلوب مشیت الہی کے طرف ہیں جب وہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں
(۳) زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے۔

(۴) میں یقیناً اہل زمین کیلئے امان ہوں

(۵) خدا حق کو کامل اور باطل کو زائل کرتا ہے

(۶) قبیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو کیونکہ یہی دعا تمہارے لئے فرج ہے

(۷) جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا۔ وہ اپنے پیٹ کو آتش سے

بھرے گا۔ اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔

(۸) میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا

ہوں۔

(۹) ہمارا علم تمہاری خبروں کے بارے میں محیط ہے تمہاری کوئی خبر ہم سے چھپی

نہیں ہے۔

(۱۰) نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں۔ لہذا نماز پڑھو

ام کلثومؑ:۔ حسین شریفین کی ہمشیرہ تھیں جلیل القدر عقلمند سخور خاتون تھیں۔ کر بلا میں قید کی گئیں۔ ان کی شادی عون بن جعفر سے ہوئی شام کے زندان سے رہائی کے بعد مدینے میں آئیں اور یہیں وفات ہوئی۔

فاطمہ معصومہؑ:۔ فاطمہ معصومہؑ امام علی رضاؑ کی ہمشیرہ تھیں۔ امام رضاؑ کی ملاقات کیلئے مدینے سے خراسان روانہ ہوئیں۔ شہر ساوہ میں بیمار ہوئیں۔ قم میں آئیں یہیں انتقال ہوا۔ آپ کا روضہ مرجع خلافت ہے۔

فاطمہؑ:۔ آپ امام محمد تقیؑ کی ہمشیرہ ہیں معارف اسلام سے آگاہ تھیں آپ کی شادی جعفر ابن طالب کی اولاد میں محمد بن جعفر سے ہوئی۔ آپ سے بعض روایات بھی موجود ہیں۔

حکیمہ:۔ آپ امام علی نقیؑ کی ہمشیرہ ہیں آپ نے حضرت زرجس کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ بارہویں امام کی ولادت کے وقت وہاں تشریف رکھتی تھیں۔ تہجد گزار تھیں۔

س 109 آئمہ کی چند کنیزوں کا تذکرہ کریں؟

ج

حضرت فضہؑ: حضرت فاطمہؑ کی کنیز تھیں۔ حضورؐ نے انہیں دعا تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہؑ کا ہاتھ بٹائی تھیں۔ 20 برس سوائے قرآن کے کوئی بات نہیں کی۔ حافظ قرآن تھیں۔

برکہ:۔ حضورؐ کے والد سے جو میراث ملی تھی اس میں ایک برکہ نامی کنیز بھی تھی۔ حضرت خدیجہؑ سے شادی سے قبل برکہ ہی حضورؐ کی خدمت کرتی تھیں۔ حضورؐ انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے۔ شادی کے بعد حضورؐ نے اسے آزاد کر دیا آزادی کے بعد برکہ نے عبید بن زید خزرجی سے شادی کر لی۔ اللہ نے برکہ کو

اور شیطان کی ناک رگڑو۔

س 111 بقیہ اللہ کا ذکر قرآن کی کس آیت میں ہے؟

ج سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں ہے

س 112 بقیہ اللہ سے کون مراد ہیں؟

ج پہلی بات جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے قیام کے بعد کریں گے وہ یہ

آیت ہوگی بقیہ اللہ خیر الکلم ان کتم مؤمنین۔ اگر تم سچے مومن ہو تو بقیہ اللہ

تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے۔

س 113 حضرت امام مہدیؑ کو لوگ کیسے سلام کریں گے؟

ج السلام علیک یا بقیہ اللہ فی ارضہ

یعنی اے خدا کی زمین میں بقیہ اللہ آپ پر سلام ہو

س 114 امام مہدیؑ کو بقیہ اللہ کیوں کہا گیا ہے؟

ج حضورؐ کے بعد آخری پیشوا ہیں علاوہ ازیں آپ انبیاء اور آئمہ کے واحد باقی ماندہ

ہیں۔

س 115 سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ بیان کریں؟

ج وہ وہ ہے جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے

تمام ادیان پر غلبہ دے اگرچہ مشرک ناپسند کرتے ہیں

س 116 تمام ادیان پر کبھی طور پر غلبہ کس وقت حاصل ہوگا؟

ج امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ یہ مہدی آل محمدؑ کے ظہور کے وقت صورت پذیر

ہوگا۔ اس دن کوئی شخص روئے زمین میں نہیں ہوگا۔ مگر یہ کہ وہ حضرت محمدؐ کی

حقانیت کا اقرار کرے گا۔

س 117 تمام ادیان پر غلبہ کے متعلق امام جعفر صادقؑ کیا فرماتے ہیں؟

ج خدا کی قسم اس آیت کے مضمون نے عملی صورت اختیار نہیں کی۔ اور ایسا صرف

اس زمانہ میں ہوگا جب قائم خروج کریں گے۔

س 118 حضورؐ نے اس غلبہ اسلام کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

ج دنیا میں کوئی بھی گھر جو پتھر اور مٹی کا۔ چادر اور خیمے کا اور اون اور بالوں سے بنا ہوا

باقی نہیں رہے گا۔ مگر یہ کہ خدا کا نام اسلام اس میں داخل کر دے گا۔

س 119 غلبہ دین اسلام کی ہو یہ آیت اور کس سورت میں آئی ہے؟

ج یہ آیت سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے

س 120 کیا سورہ فتح میں بھی غلبہ اسلام کا ذکر ہوا ہے؟

ج جی ہاں ترجمہ آیت نمبر 28 یوں ہے

”وہی ہے جس نے آپؐ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے

تمام ادیان پر غلبہ دے اور اس بات کیلئے خدا کی گواہی کافی ہے۔“

س 121 شیخ عطار نیشاپوری نے امام مہدیؑ کا کیسے ذکر کیا ہے؟

ج مہدی ہادی است تاج القیام بہترین خلق برج اولیاء

ای تو ہم پیدا و پنہاں آمدہ بندہ عطارت ثناء خواں آمدہ

س 122 حضورؐ نے شب معراج اپنے اوصیاء کے متعلق اللہ سے سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟

ج اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمدؐ! تیرے اوصیاء کے نام میرے عرش کے سرورق پر

لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے نظر کی تو بارہ انوار کو دیکھا۔ ہر نور کی ہر سطر ہے جس پر

میرے اوصیاء میں سے میرے وصی کا نام موجود ہے ان میں اول علیؑ اور ان میں

آخر مہدیؑ ہیں۔۔۔۔۔ مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم زمین کو ضرور ان

کے مہدی کے ذریعے ظلم سے پاک کروں گا۔

س 123 واشرت الارض بنور بھاسورہ زمر کی آیت نمبر 69 کا حصہ ہے اسکی تفسیر امام رضاؑ نے کیا فرمائی؟

ج اس کی تاویل میں امامؑ فرماتے ہیں کہ وہ میرا چوتھا بیٹا ہے۔ بہترین کنیز کا بیٹا ہے۔ زمین کو ہر قسم و جور سے پاک کرے گا۔ لوگ اسکی ولادت کی تردید کریں گے۔ اسکی غیبت طولانی ہوگی۔ جب ظاہر ہوگا تو زمین اسکے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی۔

س 124 امام جعفر صادقؑ نے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کی شرح بحار الانوار میں کیا فرمائی ہے؟

ج متقین سے مراد شیعیان علیؑ ہیں اور غیب سے مراد حجت غائب ہیں

س 125 فقل انما الغیب للہ فانظر والانی معکم من المنتظرین کا ترجمہ بیان کریں۔ سورہ یونس آیت نمبر 20

ج اے رسول تم کہہ دو کہ غیب تو صرف خدا کے واسطے ہے تو تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں

س 126 امام جعفر صادقؑ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 کے متعلق کیا فرمایا ہے؟

ج غیب اس آیت میں حجت خدا حضرت قائمؑ ہیں۔

س 127 امام محمد باقرؑ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200

یا ایہا الذین امنوا صبروا وصابروا واطلوا کی کیا شرح فرمائی ہے۔

ج فرائض کی انجام دہی میں صبر کرو۔ دشمنوں کے مقابلے میں بردبار رہو اور امام منتظرؑ سے مربوط رہو۔

س 128 امام محمد باقرؑ نے قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زھوقا سورہ اسرا کی آیت نمبر 81 کے متعلق کیا فرمایا؟

ج جب قائمؑ قیام کریں گے باطل کی حکومت ختم ہو جائے گی جیسا کہ دعائے ندیہ میں پڑھا جاتا ہے کہ ترجمہ:- بارالہا! اس کے ذریعے اور سب سے حق کو قائم رکھ اور باطل کو زائل کر دے۔

س 129 واسع علیکم نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ کا اردو ترجمہ بتائیں؟

ج اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔

س 130 حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے ظاہری و باطنی نعمت کن کو قرار دیا ہے؟

ج امام مہتممؑ نے ظاہری نعمت امام ظاہر کو۔ اور باطنی نعمت امام غائب کو قرار دیا ہے

س 131 فالذین امنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا

النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون کا ترجمہ بتائیں؟

ج پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کو قوت پہنچائی اور اسکی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وہی فلاح پانے والے ہیں۔

امام پنجمؑ نے فرمایا دنیا میں اس کا بدلہ قیام قائمؑ ہے اور ان کا ظہور دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیگا۔ آخرت میں بشارت یہ ہے۔ رہائی و کامیابی کے ساتھ حضورؑ اور اہل بیت کے پاس خوش کوثر پر وارد ہونا ہے

ماخذ

- 1- قرآن حکیم اللہ جل جلالہ
- 2- مقام قرآن ترجمہ سید نیاز محمد ہمدانی
- 3- مفتاح القرآن محمد مظہر الدین ملتانی
- 4- مقابلہ معارف قرآن از سید علی شرف الدین موسوی
- 5- تفسیر نمونہ علامہ سید صفدر حسین نجفی
- 6- نقوش رسول نمبر موافقہ محمد طفیل مرحوم
- 7- نوح البلاغہ مرتبہ سید شریف رضی
- 8- صحیفہ علویہ ترجمہ مفتی جعفر حسین قبلہ
- 9- نوح الاسرار ترجمہ علامہ مرتضیٰ حسین رضوان اللہ
- 10- دیوان علی حاجی محمد ذکی ترجمہ اور دیوان کے ناشر ہیں
- 11- مولود کعبہ تالیف علامہ سجاد حسین صاحب سکردو
- 12- تاریخ اسلام علامہ فروغ کاظمی انڈیا
- 13- تاریخ احمدی نواب احمد حسین صاحب پریانواں
- 14- تاریخ طبری ابی جعفر محمد بن جریر الطبری
- 15- اہل بیت کی مختصر سوانح حیات از حجۃ الاسلام عقیقی بخشاش
- 16- چودہ ستارے علامہ سید نجم الحسن کراوی
- 17- بحار الانوار علامہ مجلسی
- 18- احسن المقال شیخ محمد عباس قتی

- 19- انتخاب تاریخ طبری مولانا صفدر حسین صاحب
- 20- الارشاد شیخ مفید
- 21- الحسن والحسین محمد وجہہ السماء عرفانی
- 22- نور البشر قین من حیات الصادقین آغا سلطان مرزا
- 23- امام مہدی ولادت سے ظہور تک سید محمد کاظم قزوینی
- 24- یاد مہدی محمد خادی شیرازی
- 25- دعائے ندیہ امام صاحب العصر
- 26- صحیفہ المہدی شیخ عیسیٰ الہادی
- 27- البصار العین ترجمہ سید تقدس حسین کشوری
- 28- صحیفہ سجادیہ علامہ سید مرتضیٰ حسین
- 29- دینی معلومات علامہ ریاض حسین جعفری
- 30- گفتار دلنشین مولانا روشن علی نجفی
- 31- ینایح المودت علامہ سلیمان قندوزی
- 32- ستالی عورتیں ڈاکٹر احمد بیہشتیفا

دعا

اے رب! جہاں بختِ پاک کے خالق اس قوم کا دامنِ غمِ شبیر سے بھر دے
 بچوں کو عطا کر علیٰ صغیر کا تبسم بوڑھوں کو جلیبِ ابنِ مظاہر کی نظر دے
 کم سن کو ملے ولولہ عوں و محنت ہر ایک جوان کو علی اکبر کا چکر دے
 ماؤں کو سکھائی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سیکھنے کی دعاؤں کا اثر دے
 جو چادرِ زینب کی عزادار ہیں مولا! محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے
 مولا! تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیرن کو رہائی کی خبر دے
 مفلس پہ زر و لعلِ جواہر کی ہوا بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے
 جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلسِ شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے
 مولا! تجھے بیماری عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے
 جاتی ہے اگر جان تو بیشک چلی جائے عباس کے پرچم پہ مگر آہِ نہ آئے
 غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غمِ شبیر
 شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے